

# فہلان کام طلوب انسان

مولانا وحید الدین خاں

مطبوعات اسلامی مرکز

# قرآن کا مطلوب نسان

مولانا وحید الدین خاں

مکتبہ الرسالہ، نئی دہلی

ISBN 81-85063-48-6

مطبوعات اسلامی مرکز

جملہ حقوق محفوظ

ناشر: کتبہ الرسالہ سی ۲۹ نظام الدین ویسٹ نیشنل دہلی ۱۱۰۰۱۳

اشاعت اول ۱۹۷۹

اشاعت دوم ۱۹۸۲

اشاعت سوم ۱۹۸۴

مطبوعہ: جیت پریس، دہلی ६

MAKTABA AL - RISALA  
1439 OCEAN AVE. # 4C  
BROOKLYN, N.Y. 11230  
TEL: (718) 258-3435

## فہرست

صفحہ ۲	آغاز
۳	اسلام ایک عظیم جدوجہد
۱۹	قرآن کا مطلوب انسان
۳۰	مومن کی تصویر
۳۱	بامقصود زندگی
۳۸	یہ بے حسی کیوں
۴۰	دعوت اسلامی کے کارکنوں کی ذمہ داریاں
۴۲	کوئی سنت و الاء ہے جو سنت
۴۰	خدمتِ دین کی مشکلات
۴۶	ہمیں کیا کرنا ہے

زیرنظر محمود راقم الحروف کی چند تقریر دوں پر مشتمل پڑھے۔ یہ تقریری جماعت اسلامی ہند کے مختلف اجتماعات میں ۱۹۵۵ سے لے کر ۱۹۶۲ تک پیش کی گئی تھیں اور اس کے بعد اسی زمانے میں اکثر ہائماہ زندگی (رامپور) اور بعض ماہماں الفرقان (لکھنؤ) میں شائع ہوئیں۔ ان رسائل کے صفات سے لے کر انہیں کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ ان مختلف تقریر دوں کو جو حیرز ایک کتاب کا مشترک حصہ بنا تھے، وہ ان کا مشترک موضوع ہے۔ یہ ہے: اسلام کی حقیقت کو واضح کرنا، اور اس کی خدمت و اشاعت کا جذبہ دوں میں ابھارنا۔

آدمی فطرت سے کچھ صفاتیں لے کر آتا ہے۔ مثلاً کوئی نیاض ہوتا ہے کوئی شیرس بیان۔ کوئی فعل ہوتا ہے کوئی حوصلہ مند۔ یہ "اسان" وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں جس انسان کی قیمت ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قیمت رکھنے والا "اسان" وہ ہے جو آدمی کے خود اپنے ارادہ سے ابھرتا ہے۔ آدمی اپنے شوری علی، بالفاظ دیگر خدائی محک کے تحت اپنے کو جیسا بناتا ہے اسی کے مطابق وہ اللہ کے یہاں درجہ حاصل کرتا ہے۔

انسان بظاہر بہت سے اعفار و جوارح اور بے شمار بالوں اور ناخنوں کا مجموعہ ہے۔ مگر حقیقت انسان ایک طفیل دحدت کا نام ہے۔ اس دحدت کی سطح پر جب کسی فکر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے وجود کے تمام حصوں میں ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسا یہ کچھ معاملہ دین کا ہی ہے۔ دین، اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے، کسی مجموعہ قوانین کا نام نہیں، وہ ایک قلبی حالت کا نام ہے۔ قلب انسانی میں جب یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو پوری زندگی اس کے رنگ میں نگتی چلی جاتی ہے۔ خواہ "ہنزا روزہ" کا معاملہ ہو یا اسلامی دعوت کا، راہ سے کانتا ہٹانے کا علی ہو یا میدان جنگ۔ یہاں جہاد کرنے کا، سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ مومنا ز روح پیدا ہو جو آدمی کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور اس کے اندر وہ اعلیٰ خصوصیات پیدا کرتی ہے جو اس کو جنتی دنیا کا شہری بنانے والی ہیں۔ یہی اندر کا "مومن"، دخود میں آناتمام اعمال کا اصل مقصود ہے۔ — زیرنظر محمود کے مضایں میں، مختلف انداز سے، یہی حقیقت ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چوں کہ یہ سب اجتماعی خطابات میں، اس لئے قدرتی طور پر ان کا انداز تقریری ہے ذکر تصنیفی۔

کتابی صورت میں شائع کرتے ہوئے راقم الحروف نے ان مضایں پر نظر ثانی کی ہے۔ تاہم یہ نظر ثانی صرف جزوی یا لفظی تبدیلوں کی حد تک ہے۔ اصل مضون میں کوئی بیادی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ یہ مضایں تقریریاً اپنی اصل ابتدائی صورت ہی میں شائع کئے جا رہے ہیں۔ ایسا زیادہ تر اس جذبہ کے تحت کیا گیا ہے کہ ان کی تاریخی حیثیت برقرار رہے۔

## اسلام۔ ایک عظیم جرود جہد

قرآن الک کائنات کا فرمان ہے، جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے اور رذالت کس کے لیے ہے۔ کامیاب کون ہے اور نامراد کون۔ دنیوی اعتبار سے جب ہم کامیاب کا لفظ برسانے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کبھی سوسائٹی میں ایک شہری کو ترقی کے جو موقع دیے گئے ہیں ان کو استعمال کر کے ادنپھے درجات تک پہنچا۔ ایک شخص بڑا تاجر، اونچا عہدیدار اور اعلیٰ امور از اس کا مالک ہو تو اس کو کامیاب انسان کہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما حول کے اندر تجارت کو بڑھانے کی جو ممکن صورتیں ہیں۔ اعلیٰ عہدوں پر پہنچنے کے لیے جو صفات مقرر کی گئی ہیں امور از اس کے حصول کے لیے جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ شخص ان کو ببور کر گیا ہے اور اپنی جدوجہد کے نتیجے میں اس نے اس بلند مقام کو پالیا ہے جو قانون وقت کے تحت اس کے لیے ممکن تھا۔ کامیابی کے معنی ال دین کا چرائی پالینے کے نہیں ہیں، بلکہ کامیابی اس واقعہ کا نام ہے کہ ایک شخص نے اپنی صلاحیت اور کام کے موقع کو ان را ہوں میں صرف کیا جو اس کے لیے کھلی ہوئی تھیں اور بالآخر اپنی کوششوں کے نتیجے میں اس منزل تک پہنچ گیا جہاں ان راستوں کا کوئی چلنے والا پہنچتا ہے۔ کامیابی کوئی خوش قسم سے پہنچ آتے والا اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ وہ صحیح جدوجہد کا فطری نتیجہ ہے۔ اسی بات کو ایک فکر نے ان لفظوں میں او اکیا ہے:-

”لاق شخص اور کامیاب نہ ہو، یہ جھوٹ ہے“

یہی حال دوسری زندگی کی کامیابی کا بھی ہے جو انسان کی حقیقی منزل ہے جہاں تمام اگلے پھلانے اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ اس دن عزت اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو خدا کی رضا کو پالیں اور رذالت اور نامرادی ان کے لیے جو اس کی رضا کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں پہلے گروہ کے لیے دائمی عیش ہے اور دوسرے گروہ کے لیے دائمی عذاب۔ جو شخص قرآن پر ایمان لائے اور اسلام کو اختیار کرے وہ گویا پہلے انجام کا امیدوار ہے اور دوسرے انجام سے بچنا چاہتا ہے۔ مگر اس مقام بلند کا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم چڑھائی ہے جس کو عبور کرنے کے لیے عمل کے بعد آدمی اس کے اور پہنچتا ہے۔ خدا کا انعام کسی پری ہوئی چیز کی طرح بعض اتفاق سے کسی کو نہیں مل جاتا، بلکہ دنیوی کامیابی کی طرح وہ ایک زبردست جدوجہد کا قدرتی نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ آخرت میں انسان کی کامیابی دراصل ایک لبے امتحان سے پرا راجانے کا دوسرا نام ہے۔ انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دنیا میں ڈال دیا ہے جہاں طرح طرح کے باطل نظریات اور فاسد رجائب ہیں جن سے اسے اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا ہے۔ سببت سے غلط اور ناجائز طریقے ہیں جن سے اسے بچنا ہے۔ بہت سی شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں جو انسان کو راہ حق سے پھیر دینے میں لگی ہوئی ہیں۔ ان طاقتلوں سے

لڑتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ غرض دشواریوں سے بھرا ہوا ایک راستہ ہے جس کو طے کر کے اس کو اپنے رب تک پہنچا سے۔ شیعی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

**مُجَبَّتُ النَّارِ بِالشَّهْوَاتِ وَمُحَبَّتٌ جَنَّمَ لِذُولِ سَدْهٖ دَهْكَى بُونَىٰ ہے اور حبَّتُ الْكَلِيفُونِ  
الْجَبَّةُ يَا لِكَادِيٰ (متفق علیہ)**

اسلام کی حقیقت کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو اس کے لیے "قریان" سے زیادہ موزوں اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ اسلام دراصل ایک زبردست جدوجہد ہے وہ قربانی کا ایک سلسلہ علی ہے جو ایمان لانے کے بعد سے آدمی کی موت تک جاری رہتا ہے۔ سب سے پہلی قربانی آدمی اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنے پسندیدہ خیالات اور قبلی رجحانات کو خیر بار کہہ کر دین حق کو قبول کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا قربانی وہ ہے جو عمل کی دنیا میں دی جاتی ہے۔ اخلاق و معاملات اور معیشت و تمدن میں وہ ان طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے جو خدا کو ناپسند ہیں اور ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے جو خدا کو محظوظ ہیں۔ پھر جب وہ ان دونوں حملوں کو پا کر لیتا ہے تو وہ امتحان کے اس آخری میدان میں پیش چاتا ہے جہاں نہ صرف حرام چیزیں بلکہ زندگی کے جائز نہ اٹے بھی چھوڑ دینے ہوتے ہیں۔ حق اک اپنی جان بھی قربانی کر دینی پڑتی ہے۔ یہ جان کی قربانی اس مسئلہ امتحان کی تکمیل ہے اور عہد زندگی کو آخری طور پر ثابت کر دکھانا ہے جو ایمان لا کر آدمی نے اپنے رب سے کیا تھا۔ یہ تین درجہ سے گزر کر آدمی اپنے رب تک پہنچا سے اور اس کی رضا کا محقق بتا سے، ان کو قرآن میں۔ ایمان۔ بھرت اور جہاد۔ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا:-

**الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَبَعْدَ ذَلِكِ اُرْجِعُوهُمْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَإِنْ يَعْتَصِمُوا  
بِسَيِّلِ اللَّهِ بِأَهْلِهِمْ وَالْقَسِيمِمُ اُعْظَمُ  
وَرَجْهَةُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَدْلِيلُكَ هَمْمَ  
الْفَائِزُونَ** (رویہ - ۶۰)

اس آیت میں ایمان سے مراد ان حقائق کو تسلیم کرنا ہے جو قرآن میں تحقیقیں کیے گئے ہیں، اور بھرت سے مراد اس اعتراف اور اس کے تقاضوں کے خلاف بوجو کچھ ہے اس کو چھوڑ دینا اور جہاد اس کو تنشی اور جدوجہد کا نام ہے جو ایمان اور مہابھرت کی زندگی کو آخری حد تک باقی رکھنے کے لیے اس دنیا میں آدمی کرتا ہے۔ اس طرح یہ ایمان، بھرت اور جہاد۔ ایک دوسرے سے الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی مسلم سفر کی اگلی پھیلی منزدیں ہیں۔ یہ ایک ہی کیفیت کے مختلف ارتقائی مراحل ہیں جن کو ممیز کرنے کے لیے جدا جد اعنوان دے دیا گیا ہے۔ نیز بھرت اور جہاد کی کوئی متعین صورتیں نہیں ہیں۔ ایمان کی حقیقت، مختلف حالات میں، مختلف صورتوں میں ظہور کرتی ہے۔ کسی کے لیے بھرت ترک وطن کے ہم سنی ہوئی ہے، کسی کے لیے صرف یہ کہ وہ اپنے اندر کے برے رجحانات کو چھوڑ دے۔ کسی کا جہاد اس کو برقراری قوتوں سے مکار اور تکشیجاتا

ہے کسی کا جہا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رانی ترغیبات کا مقابلہ کر کے اس کو زیر کرے۔  
**ایمان**

سب سے پہلے ایمان کو لجیسے اس غلطیم اتحاد میں شرک ہونے کا فیصلہ کرنا ہے جس کی ابتدا زبان کے افراط سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا ہے کہ اسی پر قائم رہتے ہوئے آدمی اپنی جان دے دے۔ یہ وہ نہد ہے جو بندہ اپنے خدا سے اس بات کے لیے کرتا ہے کہ وہ ساری عمر اس کا وفادار رہے گا۔ ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو حقیقت کے صحیح اور مخلص ان شعور سے پیدا ہوتی ہے جب آدمی اس حیرت انگیز کائنات کے پیچے ایک لامحدود قوت کا مشاہدہ کرتا ہے جب وہ خدا کے رسول کو تسلیم کر کے اس کے تمام فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، جب اس کا دل پاک رائحتا ہے کہ تخلیق کا یغظیم منشور بے مقصد نہیں ہے بلکہ ایک ایسا دن آتے والا ہے جب ماضی اور مستقبل کے تمام اتناوں کو مجھ کر کے ان کا حساب لیا جائے تو اسی کیفیت کے مجموعہ کو ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔

ایمان کی اصل روح اعتماد کرنا ہے۔ یہ اعتماد ایک ایسیستی کے بارے میں ہوتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھہ بہیں سکتے۔ اس لیے اس میں یقین کا فہم پیدا ہوا۔ اسی طرح خدا کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ماننے کے لازم معنی یہ ہیں کہ اس کے غصب سے ڈر جائے اور اس کے عذاب سے بچنے کی نظر کی جائے اس لیے اس کے ساتھ تقویٰ اور خوف کا ہذا ضروری ہے۔ اس طرح اگر قرآن کے تصویر ایمان کی تشریع کے لیے تین الفاظ۔ یقین، اعتماد اور خوف۔ کو اکھٹا کر دیں تو ہم اس کی روح کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ایمان اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے خدا اور اس کے رسول پر اس کی اعتماد کا نام ہے جو یقین کاں سے پیدا ہوتا ہے اور خدا سے اس خوف کا نام ہے جو آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ کسی پلٹس اور فوج کے سلاطہ کے بغیر خود سے اس کی اطاعت کو اپنے اور پر لازم کر لے۔

یقین جو ایمان کا پہلا جزو ہے، یہ خارج سے درآمد کی ہوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا زندہ شعور ہے جو خود انسان کی نظر میں چھپی ہوئی ہے۔ انسان کائنات پر عذر کرتا ہے۔ رسول کی تبلیمات کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر سے اشխے والی آواز پر کان لگاتا ہے تو یہ نیوں چیزیں بالکل ایک معلوم ہوتی ہیں۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کوئی ایک ہی پیغام ہے جو ایک وقت میں تین مختلف مقامات سے نظر ہو رہا ہے۔ خدا کا رسول جس حقیقت کی خبر دیتا ہے کائنات پوری کی پوری بالکل اس کی ہم آنہگ معلوم ہوتی ہے اور انسان کی اندر میں آواز ہر تن اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کتاب الہی میں جو کچھ پڑھتا ہے زمین دا سان کے اندر اسی کو دیکھتا ہے اور جو کچھ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی نظر اس کو اس ملک بول کر لیتی ہے جیسے کسی خانے میں بالکل اسی سائز کی چیز کہ دی گئی ہو۔ مگر یقین کی یہ کیفیت کسی کو خود بخود حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح نظرت کی ہر صلاحیت اسی وقت روکتا آتی ہے جب اس کو نشووناہ کرے کر

اچھا راجائے وہ کائنات ناہر راز اسی وقت انسان کے اوپر بے نقاب ہوتا ہے جب اس کی تلاش میں وہ اپنے آپ کو گم کر چکا ہو۔ اور کسی کتاب کے مضمایں اسی وقت آدمی پر کھلتے ہیں اور اسے فائدہ پہنچاتے ہیں جب اس کا گھبرا مطالعہ کر کے اس کے مطالب کو اخذ کیا جائے۔ ٹھیک اسی طرح یقین بھی آدمی کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنی قوت ارادی کو اس کے لیے کام میں لائے۔ یہ اگرچہ کائنات کی وہ تن تین حقیقت ہے مگر اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ آدمی کو دمی کچھ ملے جس کے لیے اس نے جدوجہد کی ہو۔

ایمان کا دوسرا جزو اعتماد ہے۔ اپنی ذات اور کائنات کا مطالعہ جہاں آدمی کو ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ ایک عظیم خالق اور کار ساز ہے جو اس کا رخانے کے تمام واقعات کا حقیقی سبب ہے۔ اسی کے ساتھ اور عین اسی وقت اس کو دو اور باقیوں کا شدید احساس ہوتا ہے۔ ایک اپنی انتہائی سے چارگی کا اور دوسرے خدا کے بے پایا احسانات کا۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے بے شمار چیزوں کا ضرورت نہ ہے۔ مگر وہ کسی ایک چیز کو بھی خود سے نہیں بنا سکتا۔ وہ ایک مکروہ رجھ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور بڑھا ہے کی ناتوانیوں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی زمین کے اوپر کھڑا ہے جو فضائے اندیعت ہے جس کے توازن میں معمول بگاڑ بھی آجائے تو اس کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے، وہ اپنے کو ایک ایسی عظیم کائنات کے اندر کھرا ہوا پاتا ہے جس پر اسے کوئی اختیار نہیں۔ ان حالات میں اس کو اپنا وجود بالکل بیس اور حقیر معلوم ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب کچھ جس کی اسے ضرورت تھی، اس کے لیے ہمیا کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایسا جسم دیا گیا ہے جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، جو سوچتا ہے اور اس کی قتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک خود بخوبی چلنے والی مشین کی طرح مسلسل کام کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری قویں پوری ہم آہنگی کے ساتھ اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو اپنا وجود مجسم احسان نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ جزئیہ شکر انہذتا ہے اور وہ احسان مندی کے خذہ سے بہریز ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس ہتھی کو اپنا سب کچھ قرار دے جس نے یہ سارا انتظام اس کے لیے کیا ہے۔ سبھی چیزوں کو اپنی مکمل بے بی کا یقین دلاتی ہے اس کو شدید احساس ہوتا ہے کہ کوئی بلند رت قوت ہو جو اس کی دشمنی کرے۔ اور دوسرا احساس اس کی اس طلب کا جواب بن کر سائیں آتا ہے۔ جو مطالعہ اس کو اپنے اندر خلا رکا احساس دلاتا ہے وہی مطالعہ بیک وقت اس خلا کو پر بھی کر دیتا ہے۔

ایمان کا تیسرا جزو "خوف" ہے۔ یہ خوف ایمان کے ابتدائی دو اجزاء۔ یقین اور اعتماد سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا لازمی نتیجہ اور اس کی تحریک ہے۔ ایک طرف وہ خدا کو دیکھتا ہے جو عدل و حکمت کا خدا ہے۔ دوسری طرف کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پکارا ٹھہرتا ہے کہ اتنا بڑا تخلیقی مصنوعہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ پھر جب وہ زمین پر بنے والے انسانوں کو دیکھتا ہے جن میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی۔ اچھے

بھی ہیں اور برسے بھی تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ محاسبہ کا ایک دن آنا ضروری ہے جیساں سچوں کو ان کی بجائے کا اور بروئی کو ان کی کا بدلہ دیا جائے۔ رب العالمین پر اعتاد ہی اس کے لیے رب العالمین سے خوف کی بنیاد بن جاتا ہے۔

یہ خدا کا خوف اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو کسی بھی ایک لفظ سے صحیح طور پر یقینیں کیا جاسکتا۔ یعنی انہیں امید اور انہیں اندیشہ کی ایک ایسی ملی کیفیت ہے جس میں بندہ بھی یہ طے نہیں کر پاتا کہ دونوں میں سے کس کو فوقيت دے۔ یہ سب کچھ کر کے اپنے کو کچھ زمینہ کا وہ اعلیٰ ترین احساس ہے جس میں آدمی کو فر اپنی ذمہ داریاں یاد رہتی ہیں اور اپنے حقوق کو وہ بالکل بھول جاتا ہے۔ یہ محبت اور خوف کا ایک ایسی مقام ہے جس میں آدمی جس سے ڈرتا ہے اسی کی طرف بھاگتا ہے، جس سے چھینی کا خطہ حموس کرتا ہے اسی سے پانے کی بھی امید رکھتا ہے یہ ایک ایسا اضطراب ہے جو سراپا اطمینان ہے اور اسی اطمینان ہے جو سراپا اضطراب ہے۔

یہ ایمان کے تین نایاں ہیں۔ ایمان دراصل اس کیفیت کا نام ہے جو خدا کے خوف، اس پر نکلنے اعتماد اور اس کے بارہ میں کامل یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کے احکام پر ایمان لائے، اپنا سب کچھ اس کو سوتپ دے، اس کے تمام فیصلوں پر راضی ہو جائے وہ مومن ہے۔ ایمان عقل کے لیے ہدایت اور روشنی ہے اور دل کے لیے طہارت اور پاکیزگی۔ اس لیے یقین اور ارادہ دونوں کو ایک ساتھ متاثر کرتا ہے اور خیالات و اعمال سب پر حادی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں مومن وہ شخص ہے جو خدا کا خالص اور وفادار بندہ ہے اور اس کے احکام پر یقین و اعتماد کی ساری کیفیات کے ساتھ اطاعت کا معاہدہ کرتا ہے۔

### ہجرت

اب ہجرت کو لیجیے۔ ہجرت کے منقی ہیں چھوڑنا۔ ترک تلقن کرنا۔ عام طور پر ہجرت کو ترک وطن کے ہمیشہ سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً ہجرت کا لفظ مخصوص طور پر جس واقعہ کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہی ہے میگر کسی داقوق کا وہ کسی منظر سے الگ کر کے سمجھا نہیں جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ترک وطن جو مومن کی زندگی میں پیش آتا ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا بلکہ ایک لمبی تاریخ کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مل ہے جو مومن کی زندگی میں پہلے دن سے شروع ہوتا ہے اور بالآخر ترک علاقوں تک پہنچ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک شخص پر حق کا اختلاف ہوتا ہے اور وہ اٹھ کر لوگوں کو اس کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے، وہ وقت کے خلاف ایک نئی آواز کا علیہ دار بن کر کویا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے ماحول کی بندگی چھوڑ دی ہے اور زمانہ کے خلاف اپنے لیے ایک راہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ہجرت کا آغاز ہے جب

آدمی ناجائز زندگی کو چھوڑ کر جائز زندگی کو اپنانے کا عزم کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ جدوجہد شروع ہو جاتا ہے جب میں اس کو بہت سی پرانی چیزوں کو چھوڑنا اور بہت سی نئی چیزوں کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ کتنے ہی اپنے لوگوں سے کٹنا اور کتنے ہی غیروں سے جڑنا ہوتا ہے۔ اندر سے باہر تک بے شمار پسندیدہ چیزوں کو ترک کرنا اور اس کے بجائے دوسری ناخوش گوار چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ایمان لانے کے ساتھ ہی مون کی زندگی میں بحیرت۔ ایک نیاطر میں اختیار کرنے کے لیے بہت سی پرانی چیزوں کو چھوڑنے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہ بحیرت جو اس نے خود کی ہے دوسروں کو بھی اسی کی طرف بلا انشروع کر دیتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں کچھ لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مخالف بن جاتے ہیں۔ اس طرح ماحول میں دو بالکل مقابل گروہ ابھرتے لگتے ہیں جن میں سے ایک گروہ اس چیز سے چپا ہوا رہتا ہے جس کو دوسرے گروہ چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ یہ اختلاف عرف اس پہلو سے ہنسی ہوتا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر تنقید کرتا ہے اور اس کے رد پر کو غلط قرار دیتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دونوں کے درمیان ایک عملی کشکش شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی معاشرہ ایک وحدت ہے جس میں کوئی شخص دوسرے تمام لوگوں سے الگ اپنے لیے کوئی راہ نہیں بن سکتا۔ انسان اپنی عین نظرت کے اعتبار سے سماجی واقعہ ہوا ہے۔ اس کی تمام ضرورتیں دوسروں سے مل جل کر انجام پاتی ہیں اور اس کو دوسروں کے پھیلائے ہوئے نظریات کے درمیان زندگی بس رہیں کر سکتا۔ جب تک وہ سماج کے تمام اداروں میں اسی نظریہ کو رائج نہ کر لے۔ اس کے بغیر نہ تو وہ درس میں اپنی صرفی کے مطابق تعلیم حاصل کر سکتا۔ نہ بازار میں اپنی صرفی کے مطابق خرید و فروخت کر سکتا۔ نہ عالمیوں سے اپنے اصول کے مطابق فضیلے لے سکتا۔ حتیٰ کہ وہ یہ بھی ہنسی کر سکتا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتا ہے اسے کھائے اور جو چیز اس کے نزدیک حرام ہیں ان کو اپنے حلق کے نیچے اترنے نہ دے۔ اس لیے جب کوئی شخص وقت کے خلاف کسی مسلم کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ لازمی طور پر ان لوگوں سے مکاروں کا سبب بن جاتا ہے جن کے نباہے ہوئے نظام کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے۔ انسانی معاشرہ کی مثال ایک جال کی سی ہے جس کے تمام افراد جتوں کی ماندا ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک حلقہ کو الگ کرنے کی کوشش پورے جال کو چھین گوڑ دیتی ہے۔ اس طرح ایک مستقل اختلاف شروع ہو جاتا ہے جو دن بدن نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے۔ قدم قدم پر ایک دوسرے سے مزاحمت پیش آتی ہے جس میں بر سر اقتدار طبق اہل حق کو تباہی اور ان کو ذرا شُحیات سے محروم کرنے کی ساری تدبیریں کرتا ہے۔ دونوں طرف سے شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک طرف مظالم کی شدت۔ دوسری طرف یہ شدت کو سب کچھ ہیں گے مگر اپنے عزم کو ترک نہیں کر سکے۔ جس چیز کو غلط بھکر ایک بار چھوڑ چکے ہیں اس کی طرف دوبارہ واپس نہیں جائیں گے۔ کیشکش بالآخر ایک ایسے نقطے پر پہنچ جاتی ہے جہاں معاشرہ عن پسندوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور فیصلہ

کرتا ہے کہ ان کے وجود کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ اس وقت اہل حق یہ طے کرتے ہیں کہ اس بستی کو چھوڑ کر زمین کے کسی دوسرے نگڑے میں چلے جائیں۔ پہلے انہوں نے غلط خیالات اور حرام معاملات کو ترک کیا تھا۔ اب وہ اپنے مکان، اپنی جایہ ادا اپنے عزیزوں۔ غرض ساری مددی حیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بحربت کی آخری اور انتہائی مشکل ہے۔

اس بحربت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام کو چھوڑ کر آدمی دوسرے مقام پر چلا گیا۔ بلکہ لاحق کو چھوڑ کر حق کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ شیطان اور طاغوت کی بندشوں سے نکل کر خدا کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں مولین کی بحربت کو بحربت الی اللہ کہا گیا ہے۔ یعنی خدا کی طرف بحربت۔ ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ لوگ زمین کو چھوڑ کر آسمان پر ہیں چلے جاتے بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، ایسی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چھوڑنے کا عمل خدا پرستی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ خدا کی طرف بحربت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جو کچھ مانع آئے، جو چیز بھی اس کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دنیا۔ یہ خدا پرستانہ زندگی کی تباہی کے جب تک آدمی اس بحربت کے لیے تیار نہ ہو وہ ایمان کے تقاضے پورے ہیں کہ سکتا اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنانے میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو اس قربانی کے لیے تیار ہو جب وہ دیکھے کہ اس کے اندر ایسے انکار اور رجحانات پر وہیں پار ہے میں جو خدا کی منی کے خلاف ہیں تو انھیں کھڑی کر نکال دے۔ اگر وہ غلط اعمال میں مبتلا ہو تو انھیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ کسی کا تعلق دین کی طرف کھل کر آنے میں وک بن رہا ہو تو ایسے تعاقب کو خیر باد کہہ دے۔ کسی میاں زندگی کو برقرار رکھنے کا مسئلہ دین کے کام میں اپنا حصہ ادا کرنے کا موقوع نہ دیا ہو تو ایسے میاں زندگی کو دفن کر دے۔ دین کے تقاضے پورے کرتے میں مساحت خوبی کو خطرہ لاحق ہو تو اس کو گواہ کر لے۔ اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کرنے میں اپنا اوزن کو چوپ کر خدا کی طرف خدا بلار ہما در دوسری طرف کوئی دوسرالقاضا آدمی کو کھینچ رہا ہو تو دوسرے تقاضوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف بڑھ جانا۔ اسی کا نام بحربت الی اللہ ہے۔

اس بحربت کے بہت سے مراحل اور اس کی بے شمار تینیں ہیں مگر اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہم اس کو دو بڑے عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ناجائز اور حرام چیزوں کو چھوڑنا اور دوسرے ان چیزوں کو چھوڑنا جو فی نفس قابل اختیاب ہیں۔ مگر دین کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ دونوں کو ان سے بھی دست بردار ہونا پڑتا ہے۔

بحربت کی پہلی قسم میں خیالات اور اعمال کی وہ پوری فہرست آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور قابل ترک قرار دیا ہے ہر آدمی کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے ماحول نام ہے تاریخ، روایات، عادات اور چال جن کے ایک مخصوص ڈھانچہ کا۔ یہ انکار و اعمال کا ایک نظام ہے جو زندگی کے تمام گوشوں پر چایا ہوا

رہتا ہے جس طرح زمین کے گولے کے گرد ہوا کا ایک غیر مرئی غلاف ہے جس میں ہم سب لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ تھیک اسی طرح ہر پیدا ہونے والا اپنے وقت کے ماحول میں ڈوبا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے اندر اس کی نشووناہوتی ہے۔ ماحول کے انکار اور روایات اس کی روگ رُگ میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور الکثر اتفاقات ان کے خلاف سوچنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے جب آدمی پر حق کا الحشرت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس دن آباد کو چھپڑنے کا مرحلہ سامنے آتا ہے۔ اس کو ان تمام غلط اثرات کو کھڑپ کرائپنے اندر سے نکال دینا ہوتا ہے جو ماحول کے اثر سے اس نے قبول کر رکھے تھے۔ پھر ہر آدمی کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، فیض ہر لذتوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کے نزدیک کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرنے کا معیار یعنی ہے کہ وہ مجھ ہے یا غلط۔ اچھی ہے یا بُری۔ بلکہ اس کے نزدیک پسندیدگی کا معیار صرف یہ ہے کہ وہ اسے اچھی لگتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آدمی اپنی جاہلی زندگی میں بہت سی ایسی ٹھیکیوں اور شکوہیوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے جو اگرچہ غلط ہیں مگر اس کے نفس کو پسند آتے ہیں۔ اسی طرح وہ بہت سی ایسی ذمہ داریوں کو بھلا دیتا ہے اور انھیں ترک کرتا ہے جو اگرچہ اخلاق اس کے لیے ضروری ہیں، مگر اس کے نفس کو پسند نہیں آتیں۔ اس لیے جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں نکتہ د رنجیت کا ایک مستقل عمل جاری کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں جو اس کو بچپن زندگی میں نہایت عزیزی تھیں انھیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور بہت سی چیزوں میں سے اسے نفرت تھی جن سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے، اس طرح ایمان لانے کے بعد غلط جذبات، غلط تعلقات، اور غلط اعمال سے جدا ہی کی ایک مستقل مہم شروع ہو جاتی ہے زندگی کے تمام معاملات میں ناجائز طریقوں سے بچنے کا ایک پیغم عمل کرنا ہوتا ہے جو مت کی آخری گھری تک جاری رہتا ہے یہ بھرت کی پہلی اور ابتدائی قسم ہے جو اخنی کے غلط عادات والہوار سے اپنے کو پاک کرنے اور برآمدہ اس طرح کی کوئی چیز قبول نہ کرنے کی نیکی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس بھرت کا ذکر قرآن میں سورہ مدثیہ میں کیا گیا ہے جو بہوت کے بالکل ابتدائی زمانے کی سورہ ہے فرمایا **وَالرَّجُزُ فَأَهْجَرَ** (ردد۔ ۵) لذگی سے بھرت کر دینی خیال اور عمل کی تمام برائیوں کو چھوڑ دیا۔

یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل الفاظ میں واضح فرمائی ہے۔

**الْمُهَاجِرُونَ هُبُرٌ مَا هُنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْتُمْ۔** مهاجروں ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہوئے ہیں۔ خدا کی مریضی کے مطابق بننے کے لیے ان چیزوں سے اپنے کو پاک کرنا ہوتا ہے جو خدا کی مریضی کے خلاف ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جس میں آدمی مجہود ہوتا ہے کہ اپنے جائز مفادات بھی خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اسلام آدمی کو کرنے کا انتار بڑا کام دے دیتا ہے کہ اس کے بعد پھر اسے کچھ اور کرنے کا موقع باقی نہیں رہتا۔ اس کی توجہات اپنی ذات سے ہٹ کر یہہ تن اسلام کی طرف لگ جاتی ہیں۔ اسی

لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر مون کی صرف ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کا جو کچھ حق ہے وہ خدا کے یہاں ہے اور وہیں وہ اسے پائے گا۔

اسلام کو قبول کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر لے۔ بلکہ عین آدمی کے ساتھ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو اس کی طرف بلاۓ اور پورے معاشرہ میں اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے۔ دین کا یہ دوسرا تقاضا ہماری ذمہ داری کو صرف دکنا نہیں کرتا بلکہ اس کو انتہائی حد تک دشوار بنادیتا ہے۔ اگرچہ انفرادی زندگی میں ممکن حد تک دین کو اختیار کرنا بھی کچھ آسان کام نہیں ہے۔ یہ فتنوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے اختیار اور اپنے ارادہ کو صرف صحیح صفت میں استعمال کرنا ہے۔ یہ خود مختار ہو گرا پی مرضی سے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا ہے اور موت کی آخری گھڑی تک پابند نہیں رکھنا ہے۔ مگر دین کا دوسرا تقاضا۔ یعنی دوسرے بندگان خدا کے پیغام کو پہنچانا اور اس کے دین کو عالمِ زمین کے اور پر رائج کرنے کی جدوجہد کرنا۔ پہلا گراں بار تقاضا ہے کہ اس کا القویں بھی آدمی کو لرزادیتے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک ایسا غلبہ اور جاگہ کام ہے جو اس کی ساری قوت اور اس کا سب کچھ مانگتا ہے۔ ذلتت حق اور انسانیت دین کے علاوہ کسی کام میں وہ جتنا وقت اور قوت بھی صرف کرے گا اس کے منتی یہ ہیں کہ اسی کے تقدیر وہ عملِ فرضیہ کی ادائیگی میں کمی کر رہا ہے۔

آدمی جب اس حیثیت سے دین کو قبول کرتا ہے تو وہ فوڑا محبوس کرتا ہے کہ اس کام میں اپنا حصہ ادا کرنے کے سعی یہ ہیں کہ میں اور کچھ نہ کروں۔ وہ اپنے لیے اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں پاتا کہ اپنی ضرورتوں کو انتہائی حد تک مختصر کر دے۔ دنیا کے اندر راضی تناول کو سہیش کے لیے دفن کر دے اور اپنی ذات کے لیے کم سے مصروف رہ کر حق کی زیادہ خدمتِ انجام دے۔ وہ مجبور ہوتا ہے کہ بالکل ناگزیر ضروریات کی فراہمی کے بعد جو وقت بھی ملے اس کو شہادت دین کی راہ میں لگادے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کو اپنی انفرادی زندگی میں اختیار کرنا ہو تو صرف حرام چیزوں کو چھوڑ کر بھی کوئی تخفیف دیندار بن سکتا ہے مگر اسلام کو اجتماعی زندگی میں اختیار کرنے کی مہم شروع نہیں ہے تو آپ کو سہیت سی حلال چیزوں سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس کے بغیر صحیح طور پر اس کام کی امداد بھی نہیں کی جاسکتی۔ اس کو انجام تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔

پہلی صورت میں آدمی کے اور صرف اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اور دوسری صورت میں وہ ساری خلق تک پیغام حق پہنچانے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ یہ چیز اپ کی مصروفیتوں اور دقوتوں میں ہے پیاہ لخاذ کر دیتی ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ اسلام کے برحق ہوئے اور اس کے سوا دوسرے تمام افکار و نظریات کے ناحق ہونے کا بے پیاہ تھیں پیدا کریں تاکہ آپ اس کے پروجسٹ بنتے بن سکیں۔ آپ کو اسلام کا تفصیلی علم حاصل کرنا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے اس کو واضح انداز میں پیش کر سکیں۔ آپ کو ان خط انکار و نظریات کے خلاف دلائل فرام

کرنے ہیں جنہوں نے انسانی ذہنوں کو متاثر کر رکھا ہے تاکہ باطل کو چھوڑ کر لوگوں کو حق کی طرف آنے پر آمادہ کیا جاسکے۔ آپ کو ایک ایک شخص بہت سچنا ہے اور اس کی نفیات، اس کے حالات اور اس کی وقت فہم کے مطابق اسے بات کھانی ہے۔ آپ کو اسلامی اخلاق کا نہایت اعلیٰ منونہ بننا ہے تاکہ آپ کی زندگی آپ کے دعوے کی تردید کرنے والی نہ ہو بلکہ اس کی صداقت پر گواہ ہو۔ غرض فلسفہ کی ایک عظیم فہرست ہے جو آپ سے آپ کی پوری عمر اور آپ کا پول اٹا نہ ناٹھی ہے۔ پھر ایسے فرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری اٹھنے کے بعد کسی دوسری چیز میں لچکی لینے کا موقع کہاں باقی رہتا ہے۔

یہ بحث کی دوسری قسم ہے جسی دین کے تقاضے پرے کرنے کے لیے اپنی ذات کے تقاضوں کو چھوڑنا جب دین کی مزدوریات اور اپنی ضروریات میں لمحراڑ ہو، جب دین کا کام آپ سے آپ کا پورا وقت اور آپ کی ساری صلاحیتیں مانگتا ہو۔ جب دین کا تقاضا یہ ہو کہ آپ اپنی خوشی اپنے اپنے عزم و اقارب تک کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھیں تو آپ اپنے اپنے کچھ اس کے لیے قربان کر دیں اور کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جس کا تعلق آپ کو دین کی طرف جانتے میں روک بن جائے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو مندرجہ ذیل آیت میں بیان کی گئی ہے۔ مومن، مہاجرا اور مجاہد فی سبیل اللہ کے ملذ و رجفات کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنْهَاكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْكُمْ وَإِنْهَاكُمْ  
وَإِنْ وَأَنْكُمْ وَعِشْرِينَكُمْ وَأَمْوَالَنِ اقْرَبُكُمْ وَهَا  
وَشَجَارَتُكُمْ كَسَادُهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصُونُهَا  
أَحَبَّ إِنْكِيمَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادُ فِتْ  
مَسِيلِهِ فَنَتَرَصَبُ عَلَيْهِ يَا فِتْنَةِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِ وَاللَّهُ  
لَأَنْهِيَ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۝

ر قوبہ - ۱۲۲

او راللہ فاسقوں کو پڑا یت نہیں دیا۔

اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ سب کی سب ملٹجائز ہیں اور ان میں سے کوئی بھی فی نفس حرام ہیں ہے بلکہ مونین سے کہا گیا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر خدا کی طرف بڑھیں اور جو لوگ ایسا یا کریں وہ فاسق ریعنی مہدیکن (قرار دیے جائیں گے)۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالیہ ہمارے پیش رہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام سے کیا تھا جنہوں نے بنی آنزال زماں کے ذریعہ اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ دین کو سر ملند کرنے کی وجہ وجہ میں اپنی ساری بوقت لگادیں گے۔ جب صحابہ کرام کے اس عہد پر ہیں سال کی مدت گزر گئی اور انہوں نے ملک تریاںیوں کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ وہ دین کی خاطر اپنے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو غرر نہ تباہ کے والی کے بعد ۹ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں ان کی کوششوں کی قبولیت کا اعلان فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ أَشْرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْفُسْحَمُ وَ  
أَهْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يَقَاتِلُونَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَلَيُقْتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
حَقًا فِي الْتَّوْرَاةِ وَالِّإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ  
أُوفَ بِعِهْدِهِ فَمِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِسْرُوا إِنَّمَا يَنْهَا  
الَّذِي بِالْعِقْمَ بِهِ وَخَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْغَلِيظُ

(توبہ — ۱۱۱)

الثُّرْنَىٰ مُوْسَىٰ سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے  
اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کی راہ میں رہنے  
رہے ہیں، کچھ بار تے رہے ہیں اور بارے جاتے رہے ہیں۔  
یہ اللہ کا چیخ وعدہ ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں  
اور اللہ سے بڑھ کر پہنچنے ہوئے کو پورا کرنے والا کوں ہے پس  
خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے اور  
یہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ بحیرت یادوں سے لفظوں میں جائز مقولات کی قربانیِ انسان کی خدا پرستی کا امتحان بھی ہے اور اسی کے  
ذریعہ سے خدا کا دین بھی خدا کی زمین پر قائم ہوتا ہے۔ یہ اعلاء کلتہ اللہ کی جدوجہد کا لاذہ ہے۔ جو لوگ اس کام میں  
حصہ لینے کے لیے آگے بڑھیں، مگر ان کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا میں اپنا مقام محفوظ کر لینے کے بعد آخرت کا کام کرنا چاہتے  
ہوں، جو اپنے مسیارِ زندگی کو گھٹانا پر تیار نہ ہوں، جو اپنے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا گواہا نہ کریں جو  
دنیوی زندگی میں اپنی تناول اور خواہوں کو قربانی ذکریں، جو یہ زوجیں کو اپنی معاشی صور و فیات میں کمی کر کے  
وہ دین کی خدمت کے لیے اور زیادہ وقت نکالنا چاہیے بلکہ اس کے عکس جو ہمیشہ یہ سوچتے ہوں کہ کس طرح اور  
کوئی بڑا کام مل جائے تاکہ اپنے بڑھے ہوئے اخراجات کو پورا کیا جاسکے۔ مختصر پر کہ جن کے اندر اتنا حوصلہ نہ ہو کہ  
وہ آج کے فائدے پر کل کے فائدے کو ترجیح دے سکیں۔ ایسے لوگوں نے کبھی تاریخ میں دین کو سر بلند نہیں کیا ہے  
اور جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں آئندہ بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں یہ کام نہیں پوسکتا۔

### جہاد

اب جہاد کو لیجیے۔ جہاد کے متی ہیں کسی چیز کے لیے اپنی آخری کوشش ہرف کرنا۔ اتنی کوشش کرنا کہ آدمی تحک  
جائے۔ بحیرت کی طرح یہ جہاد بھی کسی وقت کا درد اپنی کام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا امیل ہے جس کا تعاقب ساری  
زندگی سے ہے۔ جہاد صرف میدانِ جنگ میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان لانے کے بعد ہی سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا  
ہے اور زندگی کے آخری محاجات تک جاری رہتا ہے۔ ایک غیر اسلامی معاشرہ میں جہاد کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسی  
ماں کے جدیاتی فلسفہ میں ایک نظام کے اندر اس کے مددگاری ہوتی ہے۔ یہ ایک زبردست چیز ہے جو کسی نظام کے اندر  
اس کے عدو کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جاہلی معاشرہ میں کسی کا اسلام قبل کرنا دراصل وقت کے خلاف فضیلہ  
کرنا ہے۔ یہ فضیلہ اگر صحیح شور و اور مکمل عزم کے ساتھ ہو تو بالکل لازمی تجویز کے طور پر معاشرہ کے ہر فرد اور اس کے تمام  
اداروں سے اس کا کٹلہ اور شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وقت کا معاشرہ ہوتا ہے جو اپنے تمام نظری اور عملی پہلووں کا  
کے اعتبار سے زندگی کے تمام شعبوں پر چھایا ہوا ہوتا ہے دوسری طرف یہ صاحب ایمان ہوتا ہے جو اس سے مختلف  
ایک اور ہی طرزِ زندگی کو اپنے گرد بیش کی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے۔ احوال کے ساتھ اس کا یہ اختلاف اس کو ایک

تھی تیزگیکی اندیشنا دیتا ہے جو کسی محدود خول کے اندر بند ہوا درہ راں اس سے نکلنے کے لیے بے قرار ہو۔ یہ لشکش اور جدوجہد کا عمل آدمی کے اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور تمدن کے مختلف گوشوں میں پھیلیا ہوا ہر اس حالتکا پیچ جاتا ہے جس کا تعلق انسان زندگی سے ہو۔ یعنی مسلسل جاری رہتا ہے اور دن بہ دن تیز سے تیزتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بیان تک کہ وہ وقت آتا ہے جب کیش کش اپنے آخری نقطے پر پہنچ جاتی ہے باول کا بند ٹوٹ جاتا ہے اور جاہل نظام شکست کھا کر اسلام کے لیے بلکہ خالی کر دیتا ہے۔

جہاد کی اصل حقیقت خدا کی راہ میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو تحکما نہیے۔ قرآن میں خدا کے دین کو نجد کہا گیا ہے جس کے معنی بلند مقام کے ہیں اور اس دین پر عمل کرنے کو ادا غایل پر چڑھنے سے تشییہ دی اگئی ہے (بلودر ۱۰۰)۔ اس مثال سے ہم جہاد کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی صرف دو راہیں ہیں۔ ایک نفس کی خواہش کے مطابق اور دوسری خدا کی مرضی کے مطابق۔ ایک غیر فرمدارانہ زندگی ہے اور دوسری فرمدارانہ زندگی۔ پہلی راہ بے حد اسان ہے اور دوسری راہ بے حد دشوار۔ پہلی صورت میں اور پرے نیچے آنا ہوتا ہے اور دوسری صورت میں نیچے سے اور پر جانا۔ گاڑی کو ڈھلان راستے پر چھپڑ دیجیے تو وہ خود بخود لا راہگتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے کسی غیر معمولی کوشش کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسی گاڑی کو کسی بندی پر چڑھانا ہو تو مسلحت کی ضرورت ہے۔ ایک تحکما دینے والی مشقت کے لیے غیر کوئی شخص اپنی گاڑی کو نیچے سے اور نہیں لے جاسکتا۔ یہی مل جب وقت اور خواہش کے خلاف اپنی زندگی کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے کیا جائے تو اس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔

انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بس کرے گا، تو اس کو فوراً مسلم ہوتا ہے کہ یہاں دو الی یہ طاقتیں میں جو اس کے ارادہ کی راہ میں زبردست روک ہیں۔ ایک خود اس کا اپنا نفس دکھڑے طاغوت۔ نفس سے مراد انسان کا یہ جذبہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے لیے لذت اور آرام کو پسند کرتا ہے۔ اس کو ہمیشہ آسان کی تلاش رہتی ہے وہ عورت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو ہر اس کا جی چاہتا ہے اس طرف نکل جاتا ہے۔ یہ جذبہ اس کو اسکتا ہے کہ ہر دہ کام کرے جس سے اس کی ان خواہشوں کو تکین ملتی ہو اور اسی کوئی کام نہ کرے جس سے اس کی ان خواہشوں پر ضرب پڑے۔ اور عورت سے مراد خارج کا وہ غلط اقتدار ہے جو ماہول کی روایات، وقت کے نظریات اور عوام انساں کی خواہشوں کی محترمی آدمی کے اور دباؤ ذاالتا ہے۔ یہ طاغوت افراد کی زندگی میں ملکبرانہ روشنی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں غیر خدا کی صورت میں۔ یہ خارجی قوتیں براہ راست بھی مراحت کرتی ہیں اور بالواسطہ بھی بالواسطہ اس طرح کہ سوسائٹی پر ملانا بعض ہونے کی وجہ سے زندگی کے تمام گوشوں میں انھیں کے نظریات پھیل جاتے ہیں۔ انسان کے لیے اس کے سوا کوئی عکل نہیں ہوتی کہ ان کو مانے اور اپنے آپ کو ان سے ملوث کرے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور براہ راست اس لیے کہ اس طرح کے ایک ماحول میں حق پر چلنے کا ارادہ ان تو توں

کے بیچنے کی حیثیت رکھتا ہے وہ راجح وقت نظام کے لیے موت کی پیش گوئی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس قسم کا ارادہ لے کر اٹھتے ہیں وہ ان کو رد کئے اور ان کو کچل دینے کے لیے اپنا پورا زور صرف کرتی ہیں اور اپنے دامہ میں ان کو زندگی کے مواثق سے محروم کر کے رکھ دیتی ہیں۔

ان حالات میں جب کوئی شخص خدا کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو اپنے اندر سے لے کر باہر کی خیالات سے کوئی عمل کی دنیا تک قدم قدم پر بیمار رکاوٹوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ کہیں آزم کے مقابلہ میں تکلیف گوارا کرنا ہوتا ہے، کہیں ایک لذتیز جگہ کو چھوڑنے اور ایک خلک عقیدہ کو قبول کرنے کے لیے کش کش کرنی پڑتی ہے۔ کہیں ملتے ہوئے ناجائز فائدوں کے ڈھیر کے بجائے ایک حقیر حاصل پر آمادہ ہونے کے لیے اپنے آپ سے زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ کہیں عزت اور ناموری کے بجائے گم نانی اور رزلت پر قائم ہونے کے لیے مجاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ کہیں اپنے جائز حقوق اور اپنے واقعی مفادات سے محرومی پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ غرض اس کے سامنے مختلف راہیں کھلی ہوتی ہیں اور اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ جد ہر جا بے چلا جائے۔ ایک طرف جانے میں دنیا کی ہجنہ لمحتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور دوسرا طرف جانے میں نبطا ہر کچھ بھی ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا نفس مجبر کرتا ہے کہ آسان راستہ کی طرف جائے۔ خارجی قوتیں اس مقصد کے لیے اپنا پورا وزن اس کے اوپر ڈال دیتی ہیں۔ مگر وہ ان ساری مزاحموں کے باوجود آسان اور پر لطف راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور کچھ کراپے کو شکل راستہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی کش کش کا نام جہاد ہے۔

جب چیز کو ہم اجتماعی انقلاب کہتے ہیں وہ بھی اسی کش کش کا ایک قدرتی نتیجہ ہے جس کے بعد ماحول اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اجتماعی انقلاب برپا کرنا اسلام کا اصل مقصد ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ مقصد نہیں بلکہ ذریعی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل کا آخری انجام ہے۔ اسلام کے مطابق جنیہے اور منے کا ارادہ جو ابتداء قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ جب عمل کی صورت اختیار کرتا ہے اور ذہن سے نکل کر ماحول میں پھیلنا شرع ہوتا ہے تو اسی پھیلاؤ کے ایک مخصوص دائرہ کو ہم اجتماعی انقلاب کہتے ہیں۔ انقلاب کو مصنوی درخت کی طرح اگایا نہیں جاسکتا اور نہ اس کو بوریوں میں بھکر کر کہیں باہر سے لایا جاتا ہے بلکہ وہ ایک عمل کے طبعی نتیجہ کے طور پر خود اپنی زمین سے ابھرتا ہے۔ جس طرح اٹھے کے اندر ایک زندہ کچھ کا وجود یعنی رکھتا ہے کہ ایک روز اور کاغذ کا خون رُفت جائے اور جیسا جائتا بچا اس کے باہر آجائے۔ ٹھیک اسی طرح مخالف ماحول کے اندر ایک اسلامی گروہ کی موجودگی اس کے لیے موت کا حکم رکھتی ہے۔ اگر یہ گروہ اپنے ایمان میں غلص ہے اور عقیدہ کو عمل کی شکل دینے کا تکمیل

تو ٹردے گا۔ وہ اس کے اندر نہیں کھہر سکتا۔

چاہدہ اس رکاوٹ سے لڑنے اور اس کے کش کش کرنے کا نام ہے جو دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں پیش آئے اور چونکہ یہ رکاوٹ انسان کے اندر سے بھی ہوتی ہے اور باہر سے بھی، اس لیے جہاد میں آری کبھی خود

اپنے نفس کے بال مقابل ہوتا ہے اور کبھی خارجی دنیا سے کش کش کرتا ہے۔ اس کو کبھی خداونپی خواہشوں سے لڑنا ہوتا ہے، کبھی زبان سے دوسروں کے طرز مل پر گرفت کرنی ہوتی ہے اور کبھی ہاتھ کی قوت سے راہ حق کی رکاوٹوں کو درد کرنا ہوتا ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

**جَاهِدُ دُولَاهُوَ اَهْوَاءَ كُلِّهَا تَجَاهِدُ دُونَ**

اپنی خواہشوں سے جہاد کر جس طرح تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔

اسْلَامُ اَكْمَلُ الصَّفَوَاتِ امام راغب

مگر جہاد اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے صرف کسی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے بلکہ اس مخصوص کیفیت کا نام ہے جو کسی عمل کے ذریعہ پیدا کی جاتی ہے۔ ظاہری شکل میں اسی کیفیت جہاد کو پیدا کرنے کے لیے ہیں نہ کہ خود ان ظاہری شکلوں کا نام جہاد ہے۔ ایک شخص رات دن کی کوشش سے اسلام پر ایک اعلیٰ درجہ کی کتاب لکھتا ہے۔ ظاہر یہ جہاد کی ایک شکل ہے۔ لیکن اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ اس کتاب سے اس کی شہرت ہوگی یا اس کو مالی فوائد حاصل ہوں گے تو اس کے اس عمل کی کوئی تیمت نہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں وہ جہاد کہ جانے کا سختی نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی نیک کام کرتے ہوئے جب اس کے دل میں ایک غلط خیال گزرتا ہے اور اس تصور سے وہ کافی اختباہ ہے کہ اس طرح اس کا سارا کیا کرایا مٹی ہو جائے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو شکل پڑتے ہیں اور بے اختیار وہ کہا لختا ہے کہ۔ خدا یا! مجھے سیطان کے حوالے نہ کرو زمیں تباہ ہو جاؤں گا۔“ قریب جہاد ہے۔

یہ بات صرف جہاد ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ دوسری عبادات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دین میں جو کام بھی کرنے کے لیے تباہی گئے ہیں وہ محض اپنی شکل کے اعتبار سے مطلوب نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقت کے اعتبار سے مطلوب ہیں۔ جن اذ کار اور دعاوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جن عبادات کے ادا کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، جن اخلاق و اعمال کو پیراہمیت دی گئی ہے کہ ان کو اختیار کیے بغیر برے سے دعویٰ کے ایمان یہی معتبر نہیں ہوتا۔ ان سب کام مطلب دراصل یہ تباہ ہے کہ خدا پرستانہ زندگی کے مظاہر کیا ہوتے ہیں نہ یہ کہن مظاہر کا نام خدا پرستی ہے۔ اہل میں خدا کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ زبان سے اس کے لیے چند تعریفی کلمات کا درد کر لیا جائے، نماز روزہ اور نجع کے نام پر کچھ مخصوص عبادتی افعال انجام دیا جائیں۔ مال میں سے ایک مقررہ حصہ نکال کر غربیوں میں باشت دیا جائے۔ یا زبان و قلم کے ذریعے سے خدا کے دین کی تبلیغ کر دی جائے۔ بے شک یہی وہ اکال ہیں جو فرضاً نہیں کے لیے لازمی پر دگرام کی حیثیت رکھتے ہیں اور خدا پر ایمان جب بھی انسانی زندگی میں طہور کرے گا وہ نہیں شکلوں میں طہور کرے گا۔ ان کے ظاہر ہونے کا کوئی اور قالب اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ مگر ان خارجی شکلوں کے پیچے وہ اصل چیز جو خدا کو مطلوب ہے اور جس کی موجودگی کسی آدمی کو اس بات کا سختی بناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت اسے حاصل ہوں، وہ دراصل دل کی یہ اندر دل کی کیفیت ہے کہ آدمی کے جذبات و خیالات بالکل خدا کی صرفی کے تابع ہو جائیں۔ اس کو وہی چیز پسند ہو جس کو خدا پسند کرتا ہے اور وہی چیز ناپسند ہو جس کو خدا ناپسند کرتا ہے جو چیز خدا کی صرفی کے خلاف ہو اس کا وہ دشن بن جائے اور جو چیز خدا کو مجبوب ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اینا

آخری سرای تک قربان کر دے۔

قرآن کی اسی بتائی ہوئی زندگی کو پورا کرنے یا نہ کرنے پر ہمارے مستقبل کا انعام ہے۔ ایک شخص جو اس حقیقت کو جان چکا ہو کہ اس دنیا کا ایک خدا ہے، اور بھر جو اس واقعہ پر بھی ایمان لایا ہو کہ آخرت کا ایک عظیم دن آنے والا ہے جب پوری دنیا کی عدالت میں شہری کی جائے گی۔ اس کی خواہش اس کے سوا اور کچھ بھی ہو سکتی کہ قیامت کے اس ہولناک دن، جب وہ مالک کائنات کے سامنے ہٹا ہو تو اس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ یہ میرا نبده ہے جو دنیا کی زندگی میں میرا وفادار رہا۔ مگر یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ مقام کسی کو عرض خواہش کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی معمولی حکومتوں کا یہ حال ہے کہ وہ کسی کو وفاداری کا سرٹیفیکٹ صرف اس وقت دیتی ہے جب کہ وہ اس کا دین، اخلاق اور صفت سب کچھ اس سے خریدتی ہے۔ پھر خدا جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، جو بے حد غیرت مند ہے جو اپنی خدائی میں کسی کی معمولی شرکت بھی گوارا نہیں کرتا، وہ کیا مغض دل کی ایک خواہش یا زبان کی حرکت سے خوش ہو جائے گا اور کسی کو محض اس بنا پر وفاداری کا اعزاز نہیں دے گا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، خواہ اس نے اپنی وفاداری کو علاوہ اس کے لیے خاص کیا ہوا یا زکیا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسری تمام وفاداریوں کی طرح خدا کا وفادار نہیں کی خواہش بھی ایک نظر پر وجد کا تقاضا کرتی ہے۔ دنیا کے اداروں میں کسی کی اہمیت صرف اس وقت تکمیل کی جاتی ہے جب وہ اپنی سبترین صفاتیں اس کے لیے وقف کر دے۔ ایک دکان اپنے اندر نفع کے امکانات کسی کے اوپر صرف اس وقت ظاہر کرتی ہے جب آدمی اپنے سب کچھ اسے دے دیتا ہے۔ حکومتوں کے نزدیک کوئی شخص صرف اسی وقت اعتماد اور احترام کا حق نہیں جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس کی نذر کر چکا ہو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وفاداری کا مقام صرف اسے حاصل ہوتا ہے جو اپنی قربانیوں کے ذریعہ اس کا احتیاق ثابت کر دے۔ شرک نہ دنیا کے میتوں دل کو پسند ہے اور نہ خدا کو۔

اس حقیقت کو سامنے رکھیے اور کھراں دن کا تصور کیجیے جب ہم اور آپ اور تمام الگے پچھے پیدا ہونے والے خدا کے پاس اس طال میں جس تیسے جائیں گے کہ ایک رب العالمین کے سواب کی آواز پر پت ہو جی ہوں گی۔ جس دن آدمی اپنے سواہر ایک کو بھول جائے گا۔ خواہ وہ اس کا دوست اور قریب ترین عزیز گیل نہ ہو۔ جس دن صرف حق بات میں وزن ہو گا اور اس کے سواتام چیزیں اپنا وزن کھو جی ہوں گی۔ جس روز آدمی حسرت کرے گا کہ کافش اس نے ساری ٹر صرف آج کی تیاری میں صرف کر دی ہوئی۔ پیغامبر کا دن ہو گا۔ ہمارے درمیان اور اس دن کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ وہ موت جس کے متعلق کسی کو نہیں معلوم کردہ کہ آجائے گی۔ آج جو لمحات ہم گزار رہے ہیں اس کے ہر لمحے کا انعام ہم کو آئندہ کرو دوں سال تک بھگتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک ایسے انعام کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں اس کے لیے یا تو دامنی ملیش ہے یا دادائی ہے۔ زندگی کی مثال ایک ڈھلوان کی ہے جس پر سارے انسان ہنایت تیزی کے ساتھ بھاگ چلے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہم کو اس آخری انعام سے قریب تر کر دیتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقدر ہے۔

ہم کو زندگی کے صرف چند دن حاصل ہیں۔ ایسے چند دن جن کا نجام کرو رہا اور اربوں سال نہیں بلکہ اب الہا باد تک بھگنا پڑے گا۔ جس کا آئام بے حد خوش گوار ہے اور جس کی تکلیف بے حد رہنا۔ ہر بار جب سوچ غریب ہوتا ہے تو وہ آپ کی عمر میں ایک دن اور کم کردیتا ہے۔ اس عمر میں جس کے سوا اتنے والے ہونا ک دن کی تیاری کا اور کوئی موقع ہنسیں۔ ہماری زندگی کی مثال برفت بیٹھنے والے دوکان دار کی ہے، جس کا اٹانہ ہر بچہ کر کم ہوتا جا رہا اور جس کی کامیابی کی شکل صرف یہ ہو کہ وہ وقت گزرنے سے پہلے اپنا سامان یعنی ڈالے ورنہ آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو گا اور دکان سے اس کو خالی ہاتھ اٹھ کر جانا پڑے گا۔ پھر قبل اس کے کہوتا اگر ہم کو اس دنیا سے جدا کر دے، جہاں صرف کرنا ہے اور اس دنیا میں پہنچا دے جہاں کرنا ہنس بلکہ ہر پانے ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی قوتیں اور صلاحیتوں کا صحیح مصرف سوچیں۔ ہم سب کو ایک روز ماں الک کائنات کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے پاس اس حال میں پہنچیں کہ دنیا میں وہ حق کے لیے اپنا سب کچھ ملا چکے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انھیں پر نظر کرے گا۔

رتفقِ اجتماع جماعتِ اسلامی ہند مقامِ نگہداشت، یکم مارچ ۱۹۵۸ء ۱

## قرآن کا مطلوب انسان

ایک حدیث ہے کہ — **الْمُؤْمِنُ مَرَاةُ الْمُؤْمِنِ** — یعنی مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آج کی محبت میں آپ کے لیے میں یہی بننا پا تھا ہم۔ اس موقع پر ہر ہی خدمت جو میری بھروسے میں آئی ہے وہ یہ کہ میں نہایت سادہ اور منقص طور پر چند ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جس میں آپ خود کو بالکل برہنسہ دیکھ سکیں۔ اللہ میری اور آپ کی مدعا نہ ہے۔

ایمان کی علامت ہے۔ اس کی اگر منقص ترین فہرست بائی جائے تو شاید وہ دو چیزوں پر مشتمل ہو گی۔ قرآن اور نماز — یہ دو الفاظ دراصل پورے دین کا عنوان ہیں۔ ایک نظری خیانت سے سب سے زیادہ سب سے رکھتا ہے اور دوسرا ایسی ہمہ سے اسی نے دراصل خدا کو پایا ہے جس نے قرآن اور نماز کو پایا ہے۔ یہ دونوں جیسا ہی اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوں تو سمجھیے کہ ایمان اور اسلام آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے اور آگر آپ کی زندگی ان سے خالی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ابھی تک ایمان اور اسلام سے محروم ہیں۔

ان دونوں چیزوں کی بنیادی اہمیت خود قرآن سے ثابت ہے، جیسا کہ فرمایا:

**وَالَّذِينَ نَسِيَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ** جو لوگ خدا کی کتاب کو مفہوم پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے مصلحین کا اجر فدائی نہیں کریں گے۔  
**إِنَّا لَأَنْصِحُ أَصْرَارَ الْمُضْلَعِينَ ه** راء اعراف - ۱۰۰) کو یہ صلح صرف وہ ہے جو قرآن اور نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے۔ اسے ہی لوگوں کی کوشش خدا کی نظریں "اصلاح" کی خیانت کھتی ہیں اور اخھیں کے عمل کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بروز مرد کرے گا اور آخرت میں اپنے انعام سے سفر از فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر یہی چیز حکم کے انداز میں کہی گئی ہے: **أَشْلَّ مَا وَجَّهَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ وَأَقِمْ كتاب اہلی کا جو حصہ ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اس کو طہر ہو اور نماز قائم کر و۔** الصَّلَاةَ (عنکبوت - ۲۵)

مگر قرآن اور نماز کو پانے کا مطلب کسی لفظی بھروسے یا کسی ظاہری ڈھانچے کو پالنیا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک علم حقیقت کو پانा ہے جو آدمی کے وجود پر چھا جاتی ہے، جو اس کی پوری زندگی میں جاتی ہے اصل یہ ہے کہ ہر چیز جو آپ کی زندگی میں نظر آرہی ہو اس کی دھورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو آپ نے حقیقی طور پر انقیار کیا ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ آپ کی زندگی کا حقیقی جزء ہو بلکہ کچھ دوسرے اباب کے تحت وہ آپ کے اثاث البیت میں شامل ہو گئی ہو۔ یعنی مکن ہے کہ آدمی الفاظ کے ذریعے اپنے بارے میں جو دعوے کر رہے اس کا بھن القول: اس کے خلاف گواہی دے رہا ہو رحم (۳۰)، اس کی زبان و قلم سے نہایت اعلیٰ درجے کی باتیں جیسے رہی ہوں مگر اس کا یہ تمام عمل **نَقِيُّوْلُونَ يَأْمُوْلُهُمْ مَا لَيْسَ فِي تُلُوْبِهِ فِيمَ (آلِ هُرَيْـ ۱۶۱)** کا مصالق ہو۔ اس کی زندگی کا مرکز دخور اس کے معاشی مفادوں، اس کی بیوی بچے اور اس کی دنیوی تنائیں ہوں مگر لگنگو اور لغفات

میں وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرے گویا اس نے خدا اور اس کے دین کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا رکھا ہے۔

شال کے طور پر ایک شخص امت کی حالت نار پر تقریبیں اور بیانات شائع کر رہا ہو مگر اس کی زندگی میں ایک رات بھی ایسی نگزیری ہو جب کہ امت کے درد میں اس کی نیند اڑ جانے اور بہت ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس کی زبان سے نکلے کہ — ”خدا یا تو انھیں پڑایت دے، خدا یا مجھے طاقت دے کہ میں ان کو تیرے راستے کی طرف بلا سکوں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امت کے درد سے زیادہ اس کو خود اپنا درستار ہے۔ کیونکہ اس عنوان کو اختیار کیے بغیر وہ پرسیں اور ایسا ہے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر سکتا۔ میز کے گرد بات چیز میں اگر کوئی شخص مظلوم انسانوں کی حادثہ پر گرم اگرم حمدے رہا ہو مگر اس کی روزمرہ کی زندگی مظلوم انسانوں کی ہمدردی سے خالی ہو تو یہ ہمدردی کا نہیں بلکہ ریا کاری کا ثبوت ہے۔ رسمی قسم کے بحث و مباحثہ میں اگر کوئی شخص اصول اور ضابطے کا بہت حوالہ دیا ہو، مگر اس لفظگو کے باہر جزوں کی وجہ نہیں ہے دہ بے اصولی کا نہونہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ حقیقت اس کے اندر موجود نہیں ہے اس کو وہ الفاظ کے ذریعے اپنے اندر نہ بابت کرنا چاہتا ہے دہ اپنے گواہیک ایسی یقینیت میں ظاہر کر رہا ہے جو کہ دراصل اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ دوسروں پر تنقید کرنے میں اس کی زبان بہت تیز ہے مگر خود اس کو عمل کے جو موقوع حاصل ہیں ان میں وہ خود بھی اسی قسم کی کمزوریاں ظاہر کر رہا ہے جس میں درسرے لوگ اپنے دائرے کے اندر مبتلا ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو فی الواقع اصلاح حال سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کو صرف تنقید عزیز ہے اور اسی کو دہ انجم دے رہا ہے۔

کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک مرتبہ طراویح کے علاقے میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا۔ میرے ساتھ کی سیٹ پر کچھ میان بیٹھے ہوتے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا۔ مسلمانوں کے اندر نہ بی اسپرٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا ہر کچھ جب تعلیم شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بنیک یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے۔ بلکہ مسلمانوں میں تو یہ روایت روی ہے کہ دہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلے کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ زمانے کی سلطنت پسندی نے اس ذوق کو بڑا نفع ہاں پہنچا یا ہے اور خاص طور پر پڑھ لکھنے لوگوں کی صحیح تواب تلاوت قرآن کے بجائے تلاوت اخبار میں بس مرہنے لگی ہے۔ تاہم اب بھی ہمارے یہاں ایسے مردوں اور سوراؤں کی کافی تعداد ہے جو کسی نہ کسی حد تک اس روایت کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ اس قسم کی تلاوت بھی ایک دینی کام ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ محض الفاظ قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ ”تلاوت حق“ بنے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے :-

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْحِكْمَةَ يَتَوَلَّنَهُمْ حَقًّا تِلَاقِتَهُمْ جو لوگ کتاب الہی کے حال ہیں دہ اس کو اس طرح پڑھتے اُذْلِيلُكَ لَيُؤْمِنُونَ بِهِ

(البرہ - ۱۲۱)

یہ تلاوت حق جس کو حاصل ہو گئی ہو دہی دراصل قرآن کا قاری ہے اور دہی اس پر صحیح مذنوں میں ایمان لانے والا ہے۔ تلاوت حق کی پہچان کیا ہے۔ اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے یہ آیت آتی ہے۔

وَإِذَا مَا أَنزَلْتُ مُنْزَلَةً فَيُشْهِدُهُ مَنْ يَقُولُ  
أَيْكَمْ ذَادْتَهُ هُلْدَنْ كَأَيْمَانَةً فَلَمَّا أَلْذَنْ  
أَمْوَالَنَّزَادَتْهُمْ أَيْمَانَأَوْهُمْ لَسْبِشِرُونَ ۵ (توبہ ۱۷۲)

اد جب کوئی سورہ اترتی ہے تو بعض رسماتین دل کہتے ہیں کہ اس سورہ نے تم میرے کس کا ایمان بڑھایا ہے۔ ہاں اس نے ان لوگوں کا ایمان بڑھایا ہے جو واقعی مذنوں ہیں اور وہ اس کو پاک رکھنے ہیں۔

اس آیت سے قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی پہچان یہ معلوم ہوئی کہ وہ جب قرآن کو پڑھیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، وہ اپنے سبھرین احساسات کو اس کے اندر بولتا ہوا پایا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے مقام پر عرفان حق کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ السَّوْلِ تُرِيَ أَعْيُنُهُمْ  
نَفِيفُ مِنَ الَّذِي مُعِيزٌ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ ۚ ۸۲

او جب وہ اس کلام کو سننے ہیں جو خدا کے رسول پر اترائے تو تم دیکھو گے کہ ان کی انکھوں سے انسانوں پر تیرے ہیں عرفان حق کے سبب ہے۔ اضافہ ایمان اور عرفان حق دونوں ایک ہی حقیقت کی دل تعبیر ہیں۔ جو لوگ قرآن کے واقعی مذنوں ہیں وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ کتاب انھیں سراپا حقیقت نظر آتی ہے، وہ حقیقت جس کے متعلق علم از ان نے تسلیم کیا ہے کہ وہ جو اسے معلوم نہیں کر سکتا وہ حقیقت جس کو فلسفہ ہزاروں سال سے تلاش کر رہا ہے گردہ اس تک پہنچ ز سکا، اہل ایمان اس کو خدا کی کتاب میں پایا ہے۔ قرآن کی نکل میں وہ حقیقت کو دیکھنے لگے ہیں۔ یہ ملنے کے لیے ان کے لیے ایمان اس کے مضمون اپنے پڑھنے والے سے جس قسم کی جوابی کیفیات کا تقاضا کرتے ہیں ان کا دل ہر مقام پر باکمل اس کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ جب زمین و آسان کی نشانیاں پیش کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ان کا خالق کون ہے تو یہ اخیار ان کی زبان نے نکل پڑتا ہے: مل انت یا رب! جب خدا کے احکام بیان ہوتے ہیں اور انسان سے اس کی خیانت کے مطابق سمجھ رہے کامطالبه کیا جاتا ہے تو وہ پکارا جاتے ہیں رَبَّنَا أَمَّا فَاحْكَمْنَا مَعَ السَّاهِدِينَ۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے دل کا اندر ریے یقین ابھرننا چاہیے کہ یہ خدا کا کلام ہے، جس مطالعہ سے یہ کیفیت حاصل نہ ہو وہ انہیے بہرے کامطالعہ ہے۔ (فرقان) موسیٰ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے گویا وہ رب العالمین کی آزادی سن رہا ہے، گویا وہ خدا سے ہم کلام ہے، گویا قرآن خود اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی سب سے محبوب کتاب بن جاتی ہے جس میں وہ اپنے جذبات کی تکمیل پاتا ہے، جس سے وہ اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے، جس سے اس کو ایک نئی روشنی حاصل ہوتی ہے جو اس کے تمام عقل اور روحانی تقاضوں کا جواب بن جاتی ہے۔

قرآن کا یہ پانچھ ایک ملی دریافت کی قسم کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ نہدرے کا اپنے رب کو پانابلکہ اس تک

نیچ جانا ہے تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بعض لوگوں کے علمی ذوق نے انھیں کتابوں کا عاشق بن دیا۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں گی کہ کسی فلسفی یا فکر کی تفیقات نے لوگوں کو انسان تاثر کیا کہ وہ بالکل اس کے وون ہو گئے، مگر خدا کی کتاب کا معاملہ اس قسم کے واقعات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ کائنات کے خالق و مالک کی کتاب ہے اور یہ اس کے حقیر نہ ہے ہیں۔ اس نسبت کا قدرتی تفاوت ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق محض علمی تعلق نہ ہو بلکہ وہ نہ ہے اور خدا کا تعلق بن جائے۔ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو ہمارے اور پروردہ ہمیت طاری ہو جو کائنات کے فرماءزد اکا حکم سن کر اس کے ایک عاجز غلام پر طاری ہون چاہئے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہمارا ادل پچھل جائے، ہماری آواز پست ہو جائے، ہمارا پورا دبودھ سزا مگر دنیا زبان کراس کے آشے جھک جائے، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ بِكِتَابٍ  
مَّتَّشًا بِهَا مَسَايِّيَ تَقْسِيرَتِهِ عَلَبُودُ الدِّينِ  
مَخْشُونَ رَبَّهُمْ نُشَّأْتَهُمْ عَلَبُودُهُمْ دَقْلُوْبُهُمْ  
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲۳) رَجَمِر۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کمپی پیدا کر دینے والی کتاب ہے، اس کو سن کر ان کے بدن کے رو نجھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ انھیں خدا کی طرف مائل کرتی ہے، وہ انھیں ذکرِ الہی میں ہر قریبی ہے، وہ جب اسے سنتے ہیں تو ان کے قلوب پچھل کرآن گھوکوں کے راستے سے بہنے لگتے ہیں۔ قرآن کو سنتے یا پڑھنے کے وقت دل کے اندر خدا کی یاد اور خوش پیدا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہونا اس بات کا بخوبت ہے کہ آدمی قاتد تقلب کی بیماری میں متلا ہو جکا ہے۔ (حدید۔ ۱۶)

یاد رکھیے قرآن سے ناآشنا صرف وہ لوگ ہیں، جن کے لیے یہ کتاب کتاب ہموز، بن گئی ہے، جنہوں نے قرآن کو اس طرح پس پشت ڈال دیا ہے کیا کہ وہ اسے جانتے ہی ہیں، گویا ان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ شخص بھی قرآن سے محروم ہے جس کے لیے یہ کتاب صرف خوش الحان کے لیے موزوں الفاظاً ہیا کرتی ہے، جس کے لیے وہ محض علمی غور و بیث کاموں فرع ہو، جس کے لیے وہ حوالے کی کتاب ہو جس کو وہ تحریر و تقریر کے وقت اٹ پٹا کر دیکھ لیتا ہے۔ یہ عین مکن ہے کہ ایک شخص نے ہزاروں انسانوں کے درمیان صرف قرآن کی بیانیار پر اپنی شخصیت کا سلسلہ بھخار کھا ہے، مگر وہ قرآن کی لغت سے محروم ہے۔ اسی طرح اگر آدمی زبان قلم کے ذریعے قرآن کے اسرار و معارف بیان کر رہا ہو مگر اس کی اپنی زندگی ان حقیقتوں سے خالی ہو تو یہ بھی خدا کی کتاب سے محرومی کی ایک قسم ہے۔ دوسروں کو کتاب اپنی کادرس دنیا اور خود "لسان" میں مبتلا رہنا، قرآن سے تعلق نہیں بلکہ بے تعلقی کا شہر است ہے (تقریب۔ ۲۳)، اگر کسی نے لغت اور شکوہی مدد سے الفاظ قرآن کو حصل کر لیا ہو تو اس کے ستفی یہ نہیں ہیں کہ وہ قرآن کو بھی پا گیا ہے۔ قرآن کو پانے والا صرف وہ شخص ہے جس نے

اپنے سینے کی دھڑکنوں میں اس کو بولتے ہوئے سنائے، جس نے ان حقیقوں کو اپنی اسکھ سے دیکھا ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے جس نے اس کو اس طرح پڑھا ہے گویا وہ خود اپنے اندر پھیپھے ہوئے ہیں کہ زبان سے دہرا رہا ہے۔ یاد رکھیے حقیقت کو پانے والا صرف وہ ہے جس نے اپنے دل کی کتاب پر اس کو لکھا ہوا پایا ہے۔ جس نے صرف لفظی تشریفات کے ذریعے اسے جانا ہے، اس نے حقیقت کو ابھی تک پا یا بھی نہیں:  
**بِئْ هَوَا إِيَّاتٌ بَيْتَاتٌ فِي مَصْدَدٍ وَرِدَالذِّينَ**  
 کے سینوں میں ہیں جو معرفت رکھتے ہیں۔  
**أُولُو الْعِلْمُ.** رعنبرت - ۲۹

قرآن کی صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ صفتیں سانی ہیں کہ قرآن کے وہ کیا کیا سہلوں ہیں جن کا ہماری زندگیوں میں شامل ہو جانا ہمارا خدا کی کتاب کو مالینا ہے۔ قرآن کو پائے والا وہ ہے جس کی مردہ روح کو قرآن سے زندگی ملی ہو، جس کے لیے وہ دل کے ننگ کو درد کرنے والی کتاب ہو، جس کے لیے وہ نور بن گیا ہو جس کی روشنی میں وہ چلتا ہو۔ قرآن کو ان لوگوں نے پایا ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ اسے پڑھتے ہیں تو ان کے دل وہل اشتفتے ہیں اور وہ اپنے آنسوؤں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت صاحب قرآن کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ کبی وہ علامات ہیں جو ہماری میں کوئی کو قرآن کی تلاوت حق لفیض ہوئی ہے یا نہیں اور اس نے فی الواقع خدا کی کتاب کو پایا ہے یا وہ ابھی تک اس سے محروم ہے:  
**إِذَا تَشْتَأْلِي عَلَيْهِمْ إِيَّاتَ الْجَنِينَ ضَرَقَ أَسْبَعَدَ أَدَرَ**  
**جَبَ اللَّهُكَيْ آتَيْتَنَا مَنْ نَعْلَمْ نَأْتَنَاهُ بَلَى**  
**تَعْجِيزًا.** مریم - ۵۰  
 ہیاں ایک ہات پہنچی طرح بھی بینی چاہیے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام چیزوں کو اس ڈھنگ پر نیایا گیا ہے کہ ایک ہی چیز سے آدمی لفیخت بھی حامل کر سکتا ہے اور وہی سیک وقت اس کے لیے فتنے میں پڑنے کا بھی ذریعہ ہے۔ شیک یہی حال خدا کی کتاب کا بھی ہے، جیسا کہ فرمایا:  
**كَذَّ الَّذِي تَعْنَيُنَ اللَّهُمَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي**  
**أَنِي طَرَاعُ اللَّهُرَوْقَانَ كَيْ آتَيْتُنَ سَعْكَيْ كُوْمَرَاهَ كَرَتَاهَ**  
**مَنْ يَشَاءُ** د مذ - ۱۳۱  
 ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

ہیاں ایک ہات پہنچی طرح بھی بینی چاہیے۔ شیک یہی حال خدا کی کتاب کا بھی ہے، جیسا کہ فرمایا:  
 کذ الک تَعْنَيُنَ اللَّهُمَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي  
 اسی طرح اللہ رَوْقَانَ کی آتیوں سے اسکی کو گمراہ کرنا ہے اور  
 مَنْ يَشَاءُ كَيْ آتَيْتُنَ سَعْكَيْ كُوْمَرَاهَ كَرَتَاهَ  
 د مذ - ۱۳۱  
 بلاشبہ قرآن کتاب پڑا یت ہے۔ مگر آدمی کا اپنا چہرہ جتنا صاف ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آئینے کے اندر صاف دکھائی دے گا۔ چنانچہ قرآن سے بھی آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہو۔ قرآن کے ذریعے یہ راہ ہونے کی ایک صورت تو وہ ہے جب کہ آدمی اس میں سے الی باشیں ڈھونڈ لے جو اس کے لیے قرآن پڑا یا نہ لانے کا بہانہ بن جائیں۔ مگر لوگ قرآن کو مانتے ہیں وہ بھی اس خطرہ سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس قسم کی ممکن صورتوں میں سے ایک وہ ہے جس کا عنوان تحریف ہے۔ یعنی سب کچھ جانے کے باوجود بعض اپنی علمی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کلام الہی کے الفاظ یا اس کے معانی کو بدل دینا رلقرہ۔ (۴۵)

دوسری چیز اقسام ہے رجبار۔ ۱۹۰۰ء اقتام کے معنی ہیں باشنا، تعمیر کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نیکات کو پوری مکمل میں قبول نہ کیا جائے بلکہ انی خواہش کے مطابق مکمل کر کے اس کے بعین حصوں کو لیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسرا چیز وہ ہے جس کو قرآن میں مضامیہ کہا گیا ہے تو یہ۔ ۲۰۰۰ء مضامیہ کے معنی عربی زبان میں مشتملہ الشی بالمشی کے آتے ہیں اس ان العرب المعنی کی چیز کو دوسرا چیز کے ہم مکمل قرار دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کے خلافات سے متاثر ہو کر با دینی مصلحت کی بنا پر ان کی بات کو اپنالیا جائے اور اس کو اس طرح پیش کیا جائے گویا وہ خدا تعالیٰ تعلیم کے عین مطابق یا اس کے مقابلہ ہے۔

جہاں تک پہلی صورت رجیلف، اتفاق ہے اس کی بغاہ مکمل طور پر بدینصی کے اور قائم ہے۔ اور ہم ب لوگ اس کی برائی سے ابھی طرح واقع ہیں۔ مگر دوسرا اور تیسرا صورت کا معاملہ اس سے مختلف ہے پہنچ کیجی کبھی اچھے خاصے نیک نیت لوگوں میں بھی اس طرح چکے سے داخل ہو جاتا ہے کا انھیں خوبیں ہوتی اور وہ اپنا کام قام کر کے بالآخر انھیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔

ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انان اکثر حالات میں متاخر ذہن کے ساتھ واقعات کا مطالعہ کرتا ہے۔ وقت کی سوسائٹی میں جن خلافات کی اہمیت تسلیم کی جا چکی ہوتی ہے۔ فرقی طور پر وہ ان کا اثر قبول کرتا ہے۔ اسی طرح حقیقی دنیا کی بہت سی مسلمانیں معموم مسئلہ میں آگراں کے ذہن کی سطح سے بار بار مکراتی رہتی ہیں۔ یہ چیزیں مل کر کبھی شوری اور زیادہ تغیری شوری طور پر اس کا ایک نکر بنادیتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انان ہمیشہ چیزوں کو صرف اس حیثیت سے نہیں دیکھتا جیسی کہ وہ فی الواقع ہیں۔ اکثر حالات میں وہ مجبور ہوتا ہے کہ چیزوں کا اس حیثیت سے دیکھے جیا کہ اس کا ذہن انھیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح جب کوئی شخص ایک خاص ذہن لے کر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ بلا ارادہ اقسام کی ایک صورت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کی بعض ایسی باوقوف کو تو لے لیتا ہے جو اس کے ذہن کے چوڑھے میں بیٹھ سکتی ہوں اور باقی تمام باوقوف کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ سارا قرآن پڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے خدا کی کتاب کو پالیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن سے بالل سے خبر رہتا ہے۔ اس نے خدا کی کتاب کے پڑے حصہ کو چھوڑ کر اس کے بعض اجزاء کو اپنے خود ساختہ مہنم میں لے لیا ہے۔ اس نے جو چیز پائی ہے وہ وہی ہے جو اس کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی اور جس کی تائیدیں اتفاق سے قرآن کی بعض آیتیں بھی اسے باقاعدگیں۔ ایسے آدمی کی مثال اس تعلیم یافتہ نوجوان کی ہے جو اپنی بے کاری سے پریشان ہو اور صرف "منزدہت مازمت" کے اشتہارات دیکھنے کے لیے اخبار کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ نوجوان اپنے اس مطالعہ سے ممکن ہے مازمت کی درخواست بھیجنے کے لیے کچھ پتے ماحصل کر لے گر وہ دنیا کی سیاست سے بے خبر ہے گا اور اخبار بینی کے اہل مقصد کو حاصل نہ کر سکے گا۔

ایسی طرح مضامیہ کی خرابی بھی آدمی کے اندر خاموشی کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے۔ اس میں مامول کے اذان تاثر کے علاوہ خاص طور پر علمی ضروریات کا بھی کچھ دخل ہوتا ہے۔ یہ خیال کر جو اس لئے کہنی ہے وہ ایسی

ہدن چاہیے جو لوگوں کے ذہن سے قریب تر ہوتا کہ وہ اس کو قبول کر سکیں۔ نیز یہ کہ بات کو ایسے الفاظ اور صطلات میں پیش کیا جائے کہ وقت کا معیار فکر اس کی اہمیت تسلیم کرنے پر مجبور ہو، وقت کے علمی خیالات کے ساتھ وہ پڑپور پڑپور چھوڑ سکے۔ یہ اگرچہ بذات خود علطا نہیں ہے مگر بعض مرتبہ وہ آدمی کے ذہن میں خدا تعالیٰ تعلیمات کی ایسی تصور زندگا ہے جو اصل تعلیمات سے زیادہ وقت کے نظریات سے مطابقت رکھنے والا ہو۔ خدا تعالیٰ تعلیمات سے جزوی مشاہدہ تو ضرور اس میں موجود رہتی ہے۔ مگر در حقیقت وہ اسلامی الفاظ اور اصطلاحات میں بغیر اسلامی خیالات کی ترجیح ان ہوتی ہے۔

اگر بے حاجارت نہ ہو تو میں عرض کروں گا کہ تصور جو ایک رائے کے مطابق یونانی لفظ سقیوسوفیا (Theosophia) کی تعریف ہے، وہ بھی اسی نوعیت کا ایک راقو بے جو دوسری صدی ہجری کے نصف آخر میں بعض خارجی اثرات کے تحت اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ہمارے قدیم بزرگ جب اسلام کا پیغام لے کر عرب کے باہر دوسرے ملکوں میں گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں کچھ مخصوص انکار و اشناوال لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے اور مذہب اور مذہبی زندگی کا تصور ان کے لیے نہیں کیا جاسکتا تھا ابھی نہیں بلکہ ان انکار و اشناوال کی پیشت پر ایک زبردست فلسفہ بھی موجود تھا۔ ان چیزوں نے کچھ دعویٰ مصلحت اور کچھ اتفاقی تصور کے تحت ہمارے بزرگوں کو آمادہ کیا کہ وہ اسلام کا اس زندگ میں پیش کریں جس سے لوگ پہلے سے انوس ہیں۔ اس طرح بیوت کے تقریباً دو سو سال بعد اسلام کی متضمنانہ تبیر ہماری تاریخ میں داخل ہو گئی۔

اب قدیم روہانی انداز میں سوچنے کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور ہم ایک ایسی دنیا میں سانس لے رہے ہیں جب کہ ہر طرف معاشی اور سیاسی تحریکوں کا زور ہے۔ آج کا انسان عام طور پر اس انداز میں سوچتا ہے کہ موجودہ سماجی ڈھانچے کو بدل کر کی اور بینیاد پر دنیا کا نظام چلا جائے۔ یہ اسی فتنم کا ایک نیافرست ہے جس سے ہمارے پیش روؤں کو سابقہ پیش آیا تھا۔ وہ اگر تبیر روہانیت کا فتنہ تھا تو یہ تبیر مادیت کا فتنہ ہے۔ اب اگر ہم نے اس فتنے کو نہ سمجھا اور اس سے اپنے ذہن کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کی تو ہم بھی دین کی تبیر میں اسی فتنم کی غلطی کریں گے جو اس سے پہلے صوفیا نے کرام سے ہوچی ہے۔ اور کھجور قرآن کی ایک نئی تفیر کے قدم روہانی تصور کی طرح اسلام کو ایک جدید سیاسی تقویت بناؤ کر رکھو دیں گے۔ اور اس کے بعد ان تمام نتائج سے دوچار ہوں گے جو سیاسی تحریکوں کے لیے مقدار ہیں۔

سے تصور کی اصل کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسری ایادہ مقبول رائے یہ ہے کہ یہ لفظ صوف (راون) سے بناتے۔ ابتدائی زمانہ میں اس طبقہ کے لوگ اکثر اون کا معنوی باس پہنچتے تھے اس لئے بیسے لوگوں کو صوفی اور ان کے طریقہ کو تصور کہا جانے لگا۔

## نماز

اب نماز کو بھیجی۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ وہ آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ (حدیث) مگر یہ فائدہ صرف اس نماز سے حاصل ہوتا ہے جو صلوٰۃ خشوع ہو، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے:

تَلَمَّعَ الْمُؤْمِنُونَ هُنَّ فِي الصَّلَاةِ هُنَّ  
كَامِلُوْنَ اِيمَانَ لَا تَنْسِى وَاللَّهُ وَهُوَ جَوَابُنَا نَمازٌ مِّنْ خُشُوعٍ  
خَاتِئُونَ هُنَّ رَمُونَ ۚ ۱۲۔

میں سیناں چند چیزوں کا ذکر کروں گا جس سے معلوم ہو گا کہ صلوٰۃ خشوع کیا ہوتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔

پہلی بات یہ کہ اس سے مراد وہ نماز ہے جو اس طرح پڑھی جائے کہ آدمی اس کا نگران اور محافظ بن گیا ہو؛  
حافظِ عکی الصلوٰۃ ربقہ - ۲۲۸۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔

یہاں حفاظت سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی روزانہ زندگی کو ہر اس چیز سے بچائے جو اس کی نماز میں خلل ڈالنے والی ہو، جس سے وہ اپنی نمازوں کو ٹھیک ٹھیک ادا نہ کر سکے۔ اس میں وقت کا استہام خاص طور پر دلخیل ہے۔ حفاظت صلوٰۃ، اپنے اچھے ہوئے مہموم کے لحاظ سے، حفاظت اوقات کا دروسرا نام ہے۔ نناناہل ایمان کے لیے، کتابِ موقوت سے ہے جس کو متینِ محات میں رکون کرنے والوں کے ساتھ باجماعت ادا کرنا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر اس عادت یا ہر اس مشغولیت سے اپنی زندگی کو پانہ اور پاک کرنا ہے جو اس کو وقت پر نماز باجماعت کی ادائیگی سے محروم کر دے یا انکبیر تحریر کے وقت وہ مجد کی صفت میں کھڑا ہو اپنے نظر آئے۔

ٹھیک وقت پر نماز کے لیے حاضر ہونا ایض فوجی ڈسپلین کی تم کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ دراصل تبدیلے کی طرف سے اس بات کا منظاہر ہو ہے کہ وہ آقا کی پکار پر فوراً دوڑ پڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے گھر سے آؤ نماز کی طرف۔ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو خدا کا ہندہ ہر دوسری مشغولیت سے اپنے آپ کو نارنج کر کے خدا کی پکار کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ یہ انتہائی آمادگی اور انتہائی تعلق کا ثبوت ہے۔ وقت آئنے ہی نماز کے لیے دوڑ پڑنا اس بات کا اظہار ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی میں اولین مقام صرف خدا کو دے رکھا ہے۔ مگر جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ گویا اس بات کا منظاہر کرتا ہے کہ خدا کے سواد دوسری چیزوں کو بھی وہ اپنی عبادت میں شرکیت کیے ہوئے ہے۔ وہ یا تو بے حسی کا خلکار ہے یا کسی دوسری مشغولیت کو اس نے اپنی زندگی میں وہ مقام دے رکھا ہے جو دراصل خدا کا ہونا چاہیے۔

مسجدوں کی صفت بندی دراصل خدا کے دربار میں کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ جو اس اہم ترین وقت پر خدا کے گھر میں نظر آئے یادی سے پہنچے وہ گویا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کو خدا کی پکار سے زیادا پہنچنے نفس کی پکار عزیز ہے۔ میں اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو دوسرے مخالف میں معروف رکھتا ہے جب خدا کے بندے خدا کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کی نیاد سے غائب ہے۔

ایک امام کا واقعہ ہے۔ ان کی مسجد کے نمازی عمرادیر کر کے خاد کے لیے آتے تھے۔ ایک روز نماز شروع ہوئی تو صب دستور زنجیبے چنڈا دمی موجود تھے، اور حجہ امام نے سلام پھر اپنے پوری صفت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ یعنی نظر دیکھ کر بے سانحہ ان کی زبان سے نکلا۔ ”کاش اللہ تعالیٰ لے مجھے متفقیں کا امام بنائے۔“ ایسے لوگوں کی امامت نے تو مجھے بیار بنا دیا جنہاں کا حال یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جاتی ہے یا اس کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو وہ بھائی بھائی جاگ آتے ہیں اور دوائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بخدا یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ اور راس کے رسول کو مطلوب ہے۔ یہ کل کے ساتھ خدا کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے جس کو ذکر قرآن کیا گیا ہے یا وہ صلوٰۃ ہو ہے جس پر قرآن میں سخت وعیداً ہے۔

خاص طور پر صحیح کی نماز خصوصی مشہور ہے ربی اسرائیل۔،،، اس میں جو شخص وقت پر نہیں پہنچا پا اس سے غیر حاضر رہتا ہے وہ تو اپنے آپ کو اس خطروں میں ڈال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیاس اس سے اکار لیا جائے اور شیطان کے مقابلہ میں اس کے پاس کوئی پناہ باقی نہ رہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:-

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبُوحِ فَمَتَّهُونَ فِي مَذَبَّهِ اللَّهِ فَلَدَّ  
جِنْ نَجْنَجْ کی نماز دا کر لی وہ اللہ کے ذمہ میں آگیا۔ پس ایمان  
لَظِيلَتَكُمُ اللَّهُمَّ مِنْ ذِمَّتِهِ بُشَّرٌ فَإِنَّهُ مَنْ لَطِيلَتَهُ مِنْ  
بُوكِ اللہ تم سے اپنے ذمہ کے متعلق کسی چیز کے بارے میں پوچھے۔  
ذِمَّتِهِ بُشَّرٌ سَيِّدُ رُكَّةٍ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فَنِي  
کیونکہ اللہ جس سے اپنے ذمہ کے متعلق کسی چیز کے بارے میں ہوں  
کرے گا وہ اس کو کپڑے گا اور اس کو من کے بل جنمیں ڈال دیے گا۔  
نَارِ عَبَقَتْمَ۔ دسم۔

فخر کی نماز حدیث کے الفاظ میں ”اول نہار کی نماز ہے، وہ دوسرا نمازوں کا مردم ہے۔ ہر روز جب بھی  
کی سپیدی سورج کے آنے کی خرد ہتی ہے تو دو طرح کے موقع انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک دنیا کام، دوسرا  
آخرت کام۔ عین اس وقت موزن بلند مقام پر کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے:-

حَسَّ عَلَى الْعَصْلُوْتِ، حَسَّ عَلَى الْفَلَّاح  
آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔

یہ پکار انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ دن کی سرگرمیوں کو شروع کرنے سے پہلے خدا کے گھر میں آئے اور  
فخر کی نماز دا کر کے اپنے ارادے کا اظہار کرے کہ وہ آنے والے لمحات کو آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں مکار  
گا، وہ آنے والے دن کو خدا کی عبادت میں بکریے گا۔ عین اس وقت ایک اور پکار نے والا لکھا رہا ہے۔ یہ  
انسان کا شمن شیطان ہے جو ایک ایک شخص کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ اپنے دن کو صرف دنیا کا  
کرنے میں مکار ہے۔

پہلی پکار دیواروں سے مکار کروانے اپن آجائی ہے۔ بیزاروں کی آبادی میں صرف چنڈا یے لوگ بھر کے لیے  
ملکتے ہیں جو بوڑھے ہو جکھے ہیں یا کسی اور کام کے قابل نہیں رہے ہیں۔ مگر دوسرا پکار کو من کرہے شخص اس کی طرف  
متوجہ ہو جاتا ہے، کسان اپنے کھینتوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تاجر کھینتوں کے بڑے بڑے سچھپے کے رانچی دکانوں کی طرف

روانہ ہو جاتے ہیں۔ لازم اپنے دفتروں کی تیاری خریدتے ہیں اور بہت سے لوگ جنہیں صرف آلام عزیز ہے۔ وہ اس سماں نے وقت میں اپنے نرم بستردل سے لپٹ جانے کو مزدود ترین خیال کرتے ہیں۔

کس قدر فاصل ہے انسان جو اس وقت بھی محروم رہتا ہے جب کہ پانے کے امکانات سب سے زیادہ ہوں۔ ایک در رازہ ہو ہر روز انسان کے لیے کھتنا ہے مگر نہ ادا ان انسان ہر روز کے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ صلوٰۃ خشوع کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ناز میں آدمی کا جھکنا اس کی پوری زندگی میں اسی قسم کے جھکاؤ کا عنوان بن جاتا ہے۔ اس کا کوئی اور سمجھہ در اصل اس بات کا ایک عملی افراط ہے کہ اس نے پوری زندگی خدا کے آگے ڈال دی۔ یہ وہ مکمل طور پر خدا کے حکم کا پابندی بنا چکا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے:

**إِنَّ الْعَصْلُوَةَ شَهِيْدٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ رَبُّكُوْتَ - ۵۴** ناز بذکاریوں اور رب ایتوں سے روکتی ہے۔

ایک بنی نز جب لوگوں کو خدا کا عبادت گزار بنتی کی دعوت دی قرآن کی قوم، جس نے اپنی زندگی کی بائی اپنے نفس کے حوالے کر دی تھی اور کسی دوسرا نے نظام اطاعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اس نے جوں یا، یا سعیْبَ أَصْلَوَاتِ تَامِرَةَ أَنْ تُنْزَلَ مَاعِيْدَ اے شعیب! کیا ہماری ناز ہتھی ہے کہ یہ ان جیزوں کی ابْأُونَا أَوْ أَنْ تَقْعُلَ فِي أَمْوَالِ إِنْسَانَ مَا لَشَاءَ عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے ہاپ دادا کرتے ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ناز بعض رسی قسم کی پوچاہیں ہے بلکہ وہ اپنے وجود اور تمام اثاثے کو خدا کے آگے ڈال دینے کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا کے حضور حکم کر زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ تیرے آقا تو مجھے حکم دے ایں تیرے حکم کی تعیل کروں گا۔ اس افراط کے باوجود اگر آپ کسی کو بخیں کہ اس کی مدد کی ناز اس کی پوری زندگی کی ناز بھیں بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک صلوٰۃ خشوع سے محروم ہے۔ قرآن کی تقریب کے مطابق جس ناز کے ساتھ اتباع شہوات پایا جا رہا ہو، وہاں کی ناز ہے جس سے روشن صلوٰۃ فائدے ہو جکی ہے۔

**رَسِيم - ۵۹**

بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی ناز میں بہت ابھی نہ ہی تاہم وہ ناز تو پڑھ لیتے ہیں اور یہ بھی بہر ہاں فرض کی ادا آگے کے لیے کافی ہے۔ مگر یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ذکر قلیل نہیں، بلکہ ذکر کثیر ہے۔ ذکر قلیل کو تو منافقوں کی پہچان بتایا گیا ہے۔ (نار - ۱۲۲)

صلوٰۃ خشوع کی تیری اور آخری پہچان یہ ہے کہ بندہ جب ناز میں مشکوں ہو تو وہ اپنے آپ کو خدا سے بالکل قریب محسوس کرے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔

**وَاسْجَدْ وَاقْتَرِبْ** (علق ۱۹) سجدہ کر اور قریب ہو جا

یہ سجدہ تربت کیا چیز ہے اس کو شاید نظلوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جب آدمی اس عالم میں پہنچا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ان دیکھی حقیقت کو کامل یقین کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ ایک بعد ترین جزء سے

بنتیاں طور پر قریب ہے، کسی مخالف کی موجودگی کے بغیر کامیاب ترین لٹھکوں میں صدوف ہے۔ ایک سب سے زیادہ پہنچتے چڑی کے لیے اپنے اندر سب سے زیادہ محبت کے جذبات پارتا ہے۔ ایک چیز جس کو بظاہر کسی بھی واسطہ کے ذریعہ محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ کسی واسطہ کے بغیر وہ اس تک پہنچ گیا ہے:

گویا سجدہ جو نماز کی انتہائی حالت ہے وہ بیک وقت خدا سے قریب ہونے کی بھی انتہائی حالت ہے نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کی میت اور قربت حاصل کر سکیں۔ نماز کے ذریعہ آدمی جب اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر خدا سے جڑ جاتا ہے وہ یادِ الہی کی ایسی حالت اپنے اور طاری کرتا ہے جب کہ وہ مکمل طور پر ایک حیاتی وجود بن جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خدا کے اندر کم کر دیتا ہے۔ وحدت وجود کا تصور غالباً اپنی اقبالی شکل میں محسن اس کیفیت کو تبلیغ کر لیتے تھا جو قدرِ الہی میں غرق ہونے کے وقت آدمی کے اور طاری ہوئی ہے مگر بعد کو منطقی تینیں کی نوشش نے اس کو سہرا اور سوت کے ناظر اپنے تلفظ نہ کی پہنچا دیا۔ اگر اس بدنام عقیدے کے متعلق میری تشریح کو صحیح نامائی اور اس کو محسن حیاتی ارتباط کے مفہوم میں لیا جا سکے تو میں کہوں گا کہ سجدہ قربت کے وقت آدمی پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے شاید انسان زبان میں یہ ایک قریب ترین تعبیر ہے جب پرورگی کا لمحہ آتا ہے، جب بُغز اور محمد و دوست کا پیکر اپنے آپ کو لامدد و کمال کے حوالہ کر دیتا ہے، جب پیشانی اس طرح پھنس اٹھتی ہے گویا وہ زندگی سے چپک گئی ہے۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا قطہ نے اپنے آپ کو سندھ میں ڈال دیا ہے، گویا انسان خدا سے جلا ہے۔

### خاتمة

یہ لادت حق اور صلوات خشور کی مختصر ترین تشریح ہے جو میں نے آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کچھ باتیں نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا ہے وہ ان بالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ مگر اس کے باوجود میں نے آج آپ کے سامنے ان کو اس لیے دہرا رہا ہے تاکہ انھیں یاد لا کر آپ سے یہ بدل لوں کہ آپ ان کو اپنی زندگیوں میں شال کریں گے۔ آپ میں سے بُغز کوئی درسے سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے اس مسأله پر سبیت کرنا ہے کہ وہ اپنے علم کو اپنا حس نہ لے گا۔ وہ تو کچھ جانتا ہے اس کو اختیا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ سچے پیغمبر یا اقرار کر لیں تو یعنی مانیے کر یہ کائنات آپ کے لیے سلام و مر جباری آواز سے اس طرح گوئی اٹھیں گے کہ آپ کے کام اس کی آواز میں گے، اور آپ کے لیے خدا کی جنت کے دروازے اس طرح کھول دیتے جائیں گے کہ آپ جنتی ہی اس کی فرشتوں محسوس کریں گے۔ اور اگر آپ اس عہد کے لیے تیار نہ ہوں تو وہ سب کچھ جو اجالی میں ہے اور وہ سب کچھ جوانہ ہیسے میں چھاپا ہو گے۔ ہوا ہے کہ خدا کے یہاں اب آپ کے لیے کوئی عذر باتی نہیں رہا۔ یہ کہ کہ آپ ان بالوں کو پہلے سے جانتے ہیں، آپ نے خدا اپنے اور محبت تمام کر دی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے کو نہیں بدلتے تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس وہ کوئی سہارا ہے جس کے بیان پر آپ رب العالمین کے سامنے اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں۔ (ازندگی ذی المجرہ ۱۴۲۸ھ)

تقریبِ احمد جماعت اسلامی پند، مقام بداری، ۱۷ اپریل ۱۹۶۱ء

## مومن کی تصویر

آنچ کا یہ اجتماع جس میں ہم آپ جمع ہوئے ہیں یہ گویا ایک دور کا فاتحہ اور دوسرا ہے دور کا آغاز ہے جماعت اسلامی کی دعوت پر ملک کے گوشے گوشے سے یہاں جمع ہو گر آپ نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ پچھلے بندروں سال کے اندر ہم اس ملک میں کتنا کام کر چکے ہیں اور یہاں جو کارروائی انجام پائے گی وہ ہماری طرف سے اس بات کا اعلان ہو گا کہ آئندہ ہم اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا امراضی اور مستقبل کے درمیان کا ایک وقفہ ہے جس کو ہم دارالسلطنت یا قرآن کے الفاظ میں اس ملک کے اتم القری میں گزار سمجھتے ہیں۔ اس وقت میں جو کچھ عرض کر دیں گا وہ ہمارے اس تاریخی دن کے دوسرے پہلو کا ایک جزو ہے۔ خدا میری اور آپ کی مدد فرمائے۔

حضرت معاذ خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک گفتگو کی رواداران الفاظ میں تقل  
کرتے ہیں۔

قَالَ أَكَا أَدْلَأَفْ بِرِأْسِ الْمُرْوَنِ عَوْجِيْهِ دَفْرَوْتَهِ  
بَنِي صَلِي اللَّهُ عَلِيَّهِ وَلَمْ يَمِلْ بَهِتِنْ تَبَادِلَ كَهْ  
سَنَامِهِ قَلْتُ بَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ قَالَ  
رَأْسُ الْمُرْأَةِ إِسْلَامٌ وَعَمُودُهُ الْقَسْلَةُ  
وَدَرَوْتَهُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ  
دَاهْرَتْهُ نَفِيَّةِ الْجَهَادِ

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا میں ہمیں تبادل کہ دین کا سر اکیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے اور اس کی سب سے بلند چوٹی کیا ہے۔ میں نے جواب دیا: ہاں اے خدا کے رسول: آپ نے فرمایا۔ دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔

اس حدیث کے مطابق دین کتے ہیں درجے ہیں۔ اسلام، نماز اور جہاد۔ یہ تین الفاظ دراصل تین مختلف عمل کے عنوانات ہیں جو ایمان لانتے کے بعد کسی کی زندگی میں ابھرتے ہیں۔ اسلام اس کا پہلا عمل اور اس کی بنیاد ہے اور نمازوں جیز ہے جو اس عالمت کو اور پاھلانی ہے اور جہاد اس کی آخری منزل ہے۔

سب سے پہلے اسلام کو لیجیے۔ اسلام کے معنی سپردگی اور حوالگی کے ہیں۔ بندہ جب اپنے خدا کو پا لے اور اپنے آپ کو بالکل اس کے خواہ کر دے تو اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک قسم کافناقی اللہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور جماں طور پر اپنے الگ وجود کو باقی رکھتے ہوئے نفیاں طور پر خدا کی نہیں مگر ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی کے پرستے وجود کا خدا کے تصور میں داخل ہانا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس حقیقت پر بالکل مطمئن ہو جائے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے۔ ہمارے احساسات میں وہ اس طرح شامل ہو جائے کہ رُگ رُگ میں ہم اس کی کھلکھل محسوس کرنے لگیں۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح اس کے خواہ کر چکے ہوں کسی معاملے میں اس کے خلاف جانے کا تصور تک نہ کو سکیں۔ ہمارا ذہن اسی کے بارے میں سوچتا ہوا اور ہمارے جذبات اسی کے لیے تحرک ہوتے ہوں۔ ہم سب سے زیادہ اس سے درستے

پوں اور سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہوں جس شخص کی یہ کیفیت ہو جائے وہی دراصل اسلام کو جوں  
کرتا ہے۔ اسلام تدیم و تفویض کی وہ آخری قسم ہے جس میں بندہ اپنے نکر کو، اپنے جذبات کو، اپنے وجود کو اور  
اپنے سارے اثمار کے خدا کے پسروں کو دکھانے کا ذکر ہے اور اپنے پاس کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں  
جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے وہاں اسی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے  
خواب دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انھوں نے سمجھا کہ خدا مجھ سے میرے لڑکے کی قربانی اُنگ  
رہا ہے۔ چنانچہ انھوں نے فوراً لڑکے کو لیا اور اس کو لٹا کر اس کی گردان پر چھپی رکھ دی۔ اس واقعہ کا ذکر  
قرآن میں ان لفظوں میں آیا ہے:

فَلَمَّا أَسْلَمَ مَا وَتَّلَهُ لِلْجَبَّيْنِ

جب وہ دونوں سلم پوئے اور ابراہیم نے اسیل کو

پیشانی کے بل ڈال دیا۔

(صفات ۱۰۳)

حضرت ابراہیم کا عمل اسلام کی حقیقی تقویر ہے۔ یہ خواہی اور سپردگی کی انتہا ہے کہ خدا کی طرف سے  
جو حکم بھی آئے بندہ فوراً اس کی نعمتیں کے لیے تیار ہو جائے۔ حقیقت کہ اگر اس کو محسوس ہو کہ اس سے اپنے لڑکے کو  
ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ بتے تکلف اپنے نعت بگر کو زین پر لٹائے اور اس کی گردان پر چھپی  
چلادے۔

یہی اسلام خدا پرستا ن زندگی کا آغاز ہے۔ جب آدمی اس طرح مسلم اور طیب ہو جائے تو وہ دین کا صرا  
کپڑتا ہے۔ ہم مکمل خواہی کے بغیر کسی کی زندگی حقیقی معنوں میں خدا پرستا ن زندگی نہیں بن سکتی۔ اس خواہی میں جتنی  
مکی ہوگی اسی کے تقدیر آدمی کی زندگی میں کمی رہ جائے گی۔ مثلاً ایک شخص نے اگر اپنے ذہن کو خدا کے حوالے  
کیا ہے مگر اس کے احساسات پر خدا کا غلبہ نہیں ہوا ہے تو وہ اسلام کا صرف ایک وکیل بن کر رہ جائے گا۔ وہ  
اسلام کے لیے بھتیں کرے گا اور دوسروں پر تنقید کرنے میں اس کی زبان سہیت تیز ہوگی۔ مگر اس کی اپنی زندگی  
خدا پرستی سے خالی ہوگی۔ کوئی شخص اگر اسلام کی طرف اس طرح آئے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقش شامل  
کرنا چاہتا ہو تو وہ خدا پرستی کو اسی حد تک اختیار کرے گا جس حد تک اس کے دینی مفاد کو نقصان نہ پہنچے۔  
جہاں اس کا دنیا کا فائدہ خطا میں نظر آیا وہ خدا پرستی کو ترک کر دے گا اور دنیا کے بت کو پوچھنے لگے گا۔ جو  
شخص کسی سلطی تاثر یا وقتی جذبات کے تحت اسلام کی طرف مائل ہو گا وہ چند دنوں تو بڑی سرگرمی دکھائے گا  
مگر اس کے بعد شہنشاہ پڑ جائے گا۔ یا جہاں سے آیا تھا وہیں والپس جلا جائے گا۔ جو شخص اسلام کی طرف اس طرح  
آئے کہ وہ اپنی خودی کے بت کو بھی ساختہ لیے ہو وہ خدا کے دین کی ان بیرونیں کو بڑی خوشی سے لے لے گا جہاں  
کے ذوق کے مطابق ہوں گی اور جو چیز اس کے ذہنی سانچے میں فٹ ہوگی وہا سے رد کر دے گا۔ جو شخص اسلام کے  
نامق مطالعہ کے تحت حفظ اس کے سمجھ پہلوؤں سے تاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے وہ اپنے پسندیدہ پہلوؤں کے باڑے  
میں تو اتنی گرام گرام تقریر کرے گا کو یادہ صحاہر کرام سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ مگر دوسرا سے پہلوؤں سے اسے کچھ زیادہ

دل چپی نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام کو اپنے قوی اور تحریکی جذبات کی نیکین کے لیے اختیار کرے تو وہ قوی جوش و فروش اور تحریکی اخلاقیات میں قبہت نمایاں نظر آئے گا۔ مگر حقیقی اسلامی اپرٹ اسلامی اخلاقیات کا اس کے اندر کہیں پتہ نہ ہو گا۔ حتیٰ کہ جو لوگ مکمل حوالگی کے بغیر دین کی طرف آئیں ان کی کمزوریاں اس حد تک پہنچ سکتی ہیں کہ ایک شخص کو صحیح سات بجھے کسی دینی کام کے لیے بلا یا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تنے سو یوں نہیں آسکتا یعنی کہ وہ میرے چاہئے پہنچے کا وقت ہے۔ ایک شخص کو کسی اسلامی اجتماع کے پروگرام میں حصہ لینے کیلئے ملت کو گیارہ بجھے کا وقت دیا جائے گا اور وہ جواب دے گا کہ گیارہ بجھے تک میرے لیے سو جاناضوری ہے۔ اس لیے میں اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو صلاحیت دی ہے اس کو دین کی خدمت میں لکاؤ مگر وہ کہے گا کہ میں تو دنیا کی خدمت کروں گا کیونکہ دنیا کے بازار میں میری صلاتیتوں کی زیادہ نیتیت مل رہی ہے۔ ایک شخص اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہر وقت کھانے کریں کی فکر میں مبتلا رہے گا، اس کی مجلسیں میں ہر وقت روپے پہنچے کا تذکرہ ہو گا اور جب اس سے کہا جائے گا کہ مون کے گھر میں خدا اور آخرت کا پرچاہرنا چاہیے تو وہ بھجوگر بولے گا کہ نہ یہ مون کا ہنیں کافر کا گھر ہے؟ ایسا شخص اپنے آپ کو اسلام کے علمدار کی حیثیت سے پیش کرے گا لیکن اگر اس کی روزانہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو گا کہ اسلام سے زیادہ اس کا ذہن اپنے ذاتی مسائل میں دفعہ لیتا ہے، وہ اپنی اسلامی ذرداریوں کو پورا کرنے سے زیادہ سمجھتے ہیں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، وہ اپنی معاش کرانے اور اپنے بھروسے پھول کے مطالبات پورے کرنے کے لیے تو سارے حقوق کرتا ہے مگر اسلام کا کوئی کام کرنا ہو تو معمولی معمولی باوقول کو غذر بنالیتا ہے۔ اس قسم کی کمزوریاں جہاں نظر آئیں مجھے یہی کہ اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ یہ کہ ادی کے اندر مکمل حوالگی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے دین کی طرف نہیں آیا ہے۔ اس نے ادھوری میکل میں اسلام قبول کیا ہے۔

یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دنیا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں چند شخصوں چیزوں کو "اسلام" کہا گیا ہے۔ مثلاً حدیث جبریل میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا: "اے محمد! تباہیے اسلام کیا ہے؟ آپ سے جواب دیا: "اسلام یہ ہے تم کا اللہ اکا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور لشڑا استطاعت بیت اللہ کا حج کرو" اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں جن کو دیکھ کر بناہر پیشہ ہوتا ہے کہ تایید ہی وہ چند چیزیں ہیں جن کے جھوٹے کا نام اسلام ہے۔ مگر اس قسم کا شبہ وہی کہ رکھتا ہے جہاں احادیث کو پوری شریعت سے الگ کر کے دیکھے۔ قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات کو رامنے کر کر دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ یہ چند چیزیں کل اسلام نہیں ہیں بلکہ یہ اسلام کے چند عالمی پہلو ہیں۔ بلکہ توحید کا اقرار اپنے اندر ایک فکری انقلاب کا اعتراف ہے۔ نماز اس بات کا انطباق رہے کہ آدمی اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے آگے جھک گیا ہے۔ زکوٰۃ اپنے مال و اسباب کو خدا کے لیے وقف کر دینے کا اعلان ہے روزہ اس بات کا

عدم ہے کہ بندہ اپنے رب کی خاطر ساری مشقیں ہجھینے کے لیے تیار ہے اور حج گویا آدمی کی طرف سے اس تنقیری کا اظہار ہے کہ وہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا نکت پنج جانا چاہتا ہے۔ دوسرا نظر میں ملکہ تو حیدر اور نماز، روزہ حج و زکرۃ بذات خود مکمل اسلام نہیں ہیں بلکہ یہاں اسلام سے پیدا ہونے والی اندر دل رفیعیات کے چند نشان ہیں۔ یہ مکمل حوالگی کی علمتی تصویر ہے نہ کہ انھیں کا نام مکمل حوالگی ہے۔

یہ چیزیں جن کا حدیث میں ذکر ہے یہ شریعت کی وہ محفوظ چیزوں ہیں جن کو ہمارے اور فرض قرار دیا گیا ہے اور فرض کے متعلق سمجھ لینا چاہیے کہ وہ راستے کی حد نہیں ہیں بلکہ وہ صرف راستے کی سمت بتاتے ہیں۔ یہ فرض ایک طرح کی لازمی تحریت ہیں جو ہم کو مخصوص و قتوں میں ایک مقروہ علی کرائے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ بقیہ وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ان کی حیثیت مخفی علامات کی ہے نہ کہ ذمہ دار یوں کے حدود متعین کرنے کی۔

ایک مثال سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ نومبر ۱۹۵۹ء میں جب ہندوستان میں چینی جاہیت کا خطہ بہت بڑھ گیا تھا۔ احمد آباد کے ۲۵ ہزار طلبہ نے یہ عزم کیا کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے لوگیں گے اور اپنی جان دے کر چینی حمل کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نیصلہ کرنے کے بعد انہیں سے ہر شخص نے ایک ایک پیسہ دے کر ۲۵ ہزار پیسے جمع کیے اور ان کو ہندوستانی وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ پیسے دیتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ ہماری طرف سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے To give ourselves to you کا فکشان ہے۔ یہ وقت کی ایک مثال ہے جس سے ہم اسلامی فرض کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ بندہ فرض اور واجبات کی شکل میں اپنے وجود کا تصور احتمال خدا کو دے کر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اپنا پورا وجود خدا کو دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنی بعض ختنیوں میں سے کچھ دے کر تمام ختنیوں سے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔

اب نماز کو لیجیے جو اس سلسلے کی دوسری چیز ہے۔ حب کوئی شخص مکمل حوالگی کے ساتھ خدا کی طرف بڑھا بے تو اس کے بالکل قدرتی نتیجے کے طور پر اس کی پوری زندگی ذکر اور دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی ذکر اور دعا کی ایک مخصوص صورت کا نام نماز ہے۔ اہل ایمان کی تعریف قرآن میں یہ ہے عَوْنَرَّجُمْ هُوَ قَطْعًا رَجُدَه ۲۶۔ کے الفاظ میں کی گئی ہے۔ یعنی وہ اپنے رب سے طرتے ہوئے اور اس کی رحمتوں کی تمنا کرتے ہوئے اسے پکارتے رہتے ہیں۔ جن واقعات کو دیکھ کر لوگ دوسری چیزوں کو یاد کرتے ہیں ان کو دیکھ کر مون خدا کے تصور میں غرق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی خبازے میں شرکت کے لیے قبرستان جاتا ہے تو یہ موقع اس کے لیے بھی کے لوگوں سے ملاقات کی تقریب نہیں ہوتی بلکہ کھودی جانے والی قبراس کے لیے ایک کھلا ہوا دربانہ بن جاتی ہے جس سے وہ آخرت کی حقیقوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اگر دوہ کسی عالیشان مکان میں اپنے آپ کو پائے تو وہ اس کے نقش و نگار دیکھنے میں محبوہیں ہو جاتا بلکہ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ خدا یا مجھے الیامکان

نہیں چاہیے میں تو تیری رحمت اور منفعت کا طلب گارہوں اور وہی تو مجھے دے دے۔ اگر وہ کسی تاریخی کھنڈر کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اس کو غص آشنا قدیمی کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ اس سے یہ عبرت حاصل کرتا ہے کہ ان آبادیوں کے بنے والے اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر جس دنیا میں چلے گئے ہیں وہیں مجھ کو بھی چانا ہے۔ اگر وہ کسی جدید طرز کے کارخانے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو کام پہلے سنت میں کی انسانی محنت سے انجام پاتا تھا، اس کو تیز ز قیاس نہیں انجام دے رہی ہیں اور انسان ان کے سامنے کھڑا ہو اصراف ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کو "صنعتی انقلاب" کے عجائب یاد ہیں آتے بلکہ وہ کارخانے کی نسل میں خدا کے انعامات کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ پکارا ٹھکا ہے کہ خدا یا تو نے انسان کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کی اسے ضرورت تھی۔ تو نے اسے ایک ایسی کائنات دی ہے جو اپنے ساز و سماں کے ساتھ گویا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ انسان اُگرا کیک بُن دبادے اور ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے حرکت میں آجائے۔

اسی طرح وہ خود بتئے مغل کرتا ہے وہ بھی خدا کو اپنی طرف مائل کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کا ہریں اپنے رب سے درخواست ہے۔ جب وہ کسی کی عیب پوشتی کرتا ہے تو گویا وہ خدا سے اس کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے۔ جب وہ کسی کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کے حق سے زیادہ اسے دیتا ہے تو درحقیقت وہ دعا کرتا ہے کہ مالک حقیقی اس کے ساتھ بھی اسی طرح فیاضی کا معاملہ کرے جسی کہ جب وہ اپنے بچے کو گود میں لیتا ہے تو اس وقت بھی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں بے اختیار انسو آ جاتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدا یا نیز کچھ جتنا کمر درسے میں اس سے زیادہ تیرے سامنے بے بس اور کمر درہوں تو میری مدد فرا ! وہ کہتا ہے کہ میرے رب ! جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہمکتا ہے تو شفیق باب لیک کر اسے اٹھاتا ہے اسی طرح میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مگر اپنے کمر درہ قدموں کے ساتھ میں تجھ تک نہیں ہیچ سکتا۔ تو با تھہ بڑھا کر مجھے اٹھا لے !

نماز درحقیقت اسی مومنانہ زندگی کا انسان اور اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ مومن کی پوری زندگی نماز ہوتی ہے، مخصوص اوقات میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی حالت نماز میں ہونے کی حیثیت کو جنم اور مکمل کرتا ہے۔ نماز بندگی کی تصویر ہے۔ نماز اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش ہے۔ نماز خدا کے دربار میں حاضری کا وقت ہے۔ نمازان خذیبات کا ایک خارجی مظہر ہے جو مومن کے سینے میں تڑپ رہے ہوتے ہیں نماز ایک حافظ سے دعا ہے، وہ اپنی عاجزی کو پیش کر کے خدا سے اس کی رحمت و منفعت مانگتا ہے اور دوسرے لحاظ سے وہ اسی قسم کا ایک بیباذ عمل ہے جو ایک شخص اپنے محبوب دوست کے لیے کرتا ہے جب کہ وہ اس سے بچھ گیا ہو اور تصور کی دنیا میں اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نماز خدا کا اپنے بندے کی طرف آنا اور بندے کا اپنے رب تک ہیچ جانا ہے۔ بندہ جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دوسری تمام حالتوں کے مقابلے میں خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے چنانچہ نماز کے وقت اس کو ایک خاص طرح کی قربت کا احساس

ہوتا رہتا ہے مگر جوں ہی نماز پوری کر کے وہ سلام پھیڑا سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی ایرکنڈیشن عمارت سے لیکاکیں باہر آگیا ہو۔ مخفیر کہ نماز وہ مقام ہے جہاں خدا اپنے بندوں سے ملاقات کرتا ہے۔ جس طرح جنت کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو خدا کا دیدار کرایا جائے گا تو وہ جنت کے بہترین آرام و عیش بھول جائیں گے اور انھیں محسوس ہو گا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انھیں نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح کیفیت سے بھرا ہوا ایک سجدہ ایسا سجدہ جس سے سر اٹھانے کا جی نہ چاہے دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذتی ہے۔ ایسے بندوں والی نماز ہی حقیقی معنوں میں نماز ہے اور جس کو ایسے بندوں کی توفیق نہیں ہوئی وہ گویا ابھی تک نماز سے آشنا ہی نہیں ہوا۔ ایسے شخص سے میں خدا کے رسول کی زبان میں کہوں گا: اِنْجِيْ فَعَلَىٰ فَإِنَّكَ لَمْ تُفْلِتِ اِجَاوَ اُو رَبِّهِرْ سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھا) حدیث میں نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ یہ نماز کے ترتیبی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ نماز مونن کی ترتیب فائدے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں بیان کئے گئے ہیں۔ ارشاد ہو ہے:-

يَا أَيُّهَا الْمُنْتَهَىٰ هَذِهِ الْلَّيْلَةُ إِلَّا قَلِيلَةٌ  
نِسْفَهُهَا وَالنَّصْعُ مِنْهَا قِلِيلَةٌ هَوَ زَفَرَ عَلَيْهِ  
قِيمَ كَرْتَهُرْ رَعَ حَدَدَ كَوْنُورْ كَرْ بِينَ آدمِي رَاتِ يَا  
أَسَ سَكَكَهُ كَمْ يَا اسَ سَكَكَهُ زِيادَهُ اور قُرْآنَ كَوْنُورْ  
لَهُرْ كَرْ پَرَهُ۔ ہمْ قمْ پر ایک بخاری بات آتارنے والے  
ہیں بے نک رات کو اٹھنا غص کو خوب کھلتا ہے  
اوَالِیَّیِ حالت میں جو بات نکلتی ہے وہ بھی بہت  
درست ہوتی ہے۔ دن کے وقت تہیں بھی شخوصیت  
ہوتی ہے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف  
کے کراسی کا ہو جا۔

امزـل: ۱۸-۱۹

ان آیات میں نماز کے ایک پہلو کو وطأ شدید کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے آدمی مقال اقوام (درست گھنگو) کے قابل بتا ہے اور اس کے دوسرے پہلو کو ذکر اسم رب کہا گیا ہے جس سے تبیل ای اللہ اخدا کی طرف بھیجنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر حق کی تبلیغ کرنے کی جو دعا والی ہے وہ ایک نہایت گزار بارز داری ہے جس کو اور کسی کھنگے میں قول ثقیل کہا گیا ہے۔ اس قول ثقیل کا بوجھ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زبردست ریاضتیں کر کے اپنے اندر وہ قوت پیدا کرے جس سے اس کا بوجھاٹھانا آسان ہو جائے۔ اس ریاضت

کاظریقہ بھی تڑات والی طویل نمازیں ہیں جن کا بہترین وقت رات کی نہیاں ہے۔ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ایک بڑا مشقت کا عمل ہے جس کو بیاں و طلب اشید (بہت روزگار) کہا گیا ہے۔ اس و طلب اشید کے ذریعہ ان اپنے نفس کو کھلتا ہے اور اس حالت میں قرآن پڑھ کر اپنے ذہن کو صاف اور دل کو پاک کرتا ہے۔ اس طرح تربیت پاک وہ انسان تیار ہوتا ہے جو اعلیٰ اخلاقی اوصاف رکھنے والا ہوا در مقابل اقوام کے ساتھ تبلیغ کا فریضہ انعام دے سکے۔ رات کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا آدمی کو اس قابل بنتا ہے کہ وہ دن کو بندگان خدا کے سامنے کھڑا ہو، اور خدا کے کلام کے مطابق اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خدا کی طرف ہے بول سکے۔ نماز کا دوسرا پہلو ذکر اسکم رب ہے جو قبل الی اللہ کی کیفیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی خدا کی یاد میں اس تدریشیوں ہونا کہ ذہنی حیثیت سے آدمی ایسا ہو جائے گویا وہ دنیا سے کٹ کر خدا سے جڑ گیا ہے۔ یہ نماز صرف یاد کی شکل میں بھی ہوتی ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور قیام و قعود اور رکوع و سجود کی فعلی میں بھی جو نماز کی معصومی صورت ہے۔ آدمی جب دن کے وقت اپنی مشتویتوں میں خدا کو یاد کرتا رہتا ہے اور جب مخصوص اوقات کے آتے ہی وہ خدا کے حکم کی نیتیں میں مدد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اس بات کی تربیت حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مادی دنیا سے ٹھاکر رہ جانی دنیا کی طرف لے جائے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی وجہ پر اس قدر بے تعلق ہو جائے گویا کہ وہ خدا کا راہب بن گیا ہے۔ اس طرح ذکر اور نماز آدمی کو مادی الالاشوں سے پاک کر کے اس قابل بنتے ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے سکے۔ فان دنیا کو چھوڑ کر باقی رہنے والی دنیا میں اپنادل لگائے۔

خدا کی راہ میں نفس کو کچلے بغیر آدمی کے اندر وہ سوز پیدا ہیں ہو سکا جو دعوت حق کی جان ہے اور نہ اس کے بغیر کسی کو موعظہ حسنہ کی وہ زبان حاصل ہو سکتی جو دلوں کو اپنی طرف ٹکھنی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ داعی کی زندگی سراپا اپنے نظریات کا مجسم بن گئی ہو۔ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلیں وہ مخفی الفاظ نہ ہوں بلکہ اس کی اپنی زندگی ان کے اندر کھڑی آئی ہو۔ دعوت حق کے کام کے لیے علمی قابلیت کی ڈگریاں درکار نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے ایسی زندگی کی ضرورت ہے جو اپنی ترجان آپ ہو، جو بولنے سے پہلے بول رہی ہو۔ اس کو ایسے دل کی ضرورت ہے جو اس عین میں گھل رہا ہو کہ لوگ اپنے رب کو چھوٹے کرے ہیں۔ جو ساری فکر دل کو چھوڑ کر اس نکر میں ریانہ ہو جائے کہ کس طرح لوگوں کو ہم کے راستے سے ٹھاکر جنت کے راستے کی طرف لکھایا جائے اور آدمی کے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرنے والا ایک ہی نہیں ہے اور وہ نماز ہے، ایسی نماز جس میں مشتویوں ہو کر نہدہ اپنے آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ جس کے ذریعے وہ خدا سے جڑ جاتا ہے۔ یہ نماز داعی کا سب سے بڑا سرایہ ہے۔ اگر کوئی شخص بھتائے کہ وہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیے بغیر حق کا داعی بن سکتا ہے تو یہ ایک غلط فہمی ہے اور جتنی جلد وہ اس غلط فہمی سے بکل آئے اچھا ہے۔

نماز کی اسی اہمیت کی بناء پر حضرت مسیحؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں تمام عالی کے نام ایک مکتب

روانہ کیا جس میں یہ درج تھا کہ:-

إِنَّ أَهْمَّ أَمْوَالِكُمْ عِنْدِي الْقَلْوَةُ  
مَنِ حَفِظَهَا وَمَنِ اتَّقَى فِي هَا قَنْطَنَةً  
وَمَنِ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِسَا سَوَاهَا  
أَضَيْعَ - دَالِكَ:

تہارے معالات میں سب سے اہم چیز میرے  
زندگی نماز ہے جو شخص نماز کی حفاظت کرتے گا  
اور اس پر قائم رہے گا وہ اپنے دین کو حفظ کر کھٹکا  
اور جو شخص نماز کر فدائی کر دے وہ دوسرا چیز دل  
کو اور زیادہ مذاع کرنے والامیوگا۔

قبری چیز جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے جس طرز زندگی کو خدا اخیار کیا ہے اسی کی طرف دوسروں کو لانے کی کوشش کرے۔ دعوت بخ اور جہاد دونوں ہم منی الفاظ میں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک لفظ سے اس کی نوعیت کا انہمار ہوتا ہے اور دوسرا سے اس کی کیفیت کا۔ یا ان دونوں کے فرق کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ دعوت اس کی ابتداء ہے اور جہاد اس کی انتہا۔ ایمان لانا دوسرا نعمتوں میں ایک حقیقت کا اختلاف ہوتا ہے۔ اس حقیقت سے جب آدمی دوسروں کو آگاہ کرنا چاہے تو اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ جہاد ابتداء زبان سے شروع ہوتا ہے۔ مگر اپنے آخری درجے میں بھی داعی کو تواریخ کے سایہ اور بچاونی کے تختہ پر کھڑے ہو کر حقیقت کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ جو ان تمام مرحلے سے گزر کر اپنی ساری کوشش امرِ حق کے اعلان و انہصار میں صرف کر دے، وہی بجا پڑنی بیل اللہ ہے۔

اس جہاد میں بظاہر دوسروں کے خلاف جدوجہد ہوتی ہے مگر حقیقتاً خود اپنے ساتھ جدوجہد کرنا ہے جو شخص اپنے آپ سے لٹانے کی طاقت رکھتا ہوا وہی دوسروں سے لڑ سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو زیر کر کے وہی دوسرے پر غالب آ سکتا ہے۔ داعی اور بجا پڑنے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی خود اپنی زندگی میں اس چیز کو قائم کر جکا ہو جس کو وہ دوسروں کی زندگی میں قائم کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ وہ ان بالوں پر سب سے پہلے خود ایمان لائے جن کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے جاریا ہے۔ وہ خود اس چیز کے لیے بیتاب بچکا ہو جس کی طلب وہ دوسروں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جو اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ جکا ہو جس کو وہ نعمتوں کے ذریعہ دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے۔ داعی کے سامنے ایک طرف اس کے مخاطب ہوتے ہیں دوسرا طرف وہ دنیا ہوتی ہے جس کے حالات اسے لوگوں کو بتانے ہوتے ہیں، اس لیے وہ انتہائی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ سامنے کی دنیا اور پیچھے کی دنیا دونوں کو دیکھ سکے۔ اپنی بات پر بے پناہ یقین اور خدا کے اور پر بے پناہ اعتماد، ہمیں دو چیزیں خدا کے لیے کوشش کرنے والیں کام سرا پر ہیں، آپ حقیقی مندوں میں وہی اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ کا حال یہ ہو کہ آپ کسی کی غلط روشنی پر منقاد کریں تو درود کی شدت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں۔ آپ کی دعویٰ تحریکیں بازار سے خرید کی ہوئی روشنائی سے لکھی گئی ہوں تکہ اپنے خون سے تیار کی گئی ہوں جس میں آپ نے خود اپنے کو نجٹڑ دیا ہو۔ اسی طرح اگر آپ مقرر ہیں تو آپ کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایسے پر

تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کا دل بے قرار ہو جائے اور آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ خدا! جو کچھ تو آخرت میں ان کے سامنے کھونے والے ہے اس کو میں دنیا میں ان کے سامنے کھونا چاہتا ہوں۔ تو مجھے اس کی توفیق دے: جو شخص اس مقام سے بول سکے وہی درصلِ دائمی بن سکتا ہے اور جس کا نذر بریت صدر نہ ہو اس کو جاننا چاہیے کہ وہ ابھی دائمی بننے کے قابل نہیں ہوا ہے۔ اس کو دوسروں کی اصلاح کے لیے اٹھنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔

لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، دنیا میں نظامِ عدل قائم کرنا، شیطان اور طاغوت کے خلاف جنگ کرنا، یہ جہاد نے بسیل اللہ کے میدان میں۔ مگر یہی جہاد نے بسیل اللہ کا مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ جہادِ اصل میں مومن کو مشکلات میں ڈال کر اس کا امتحان لینا ہے اور اس کو ایک ایسا موقع فرامیں کرنا ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنی ارتقا کے لامحدود متاز ملے کر سکے جس طرح انسان کے مادی وجود کو باقی رکھنے اور اس کو شر و نار سے کے لیے زمین و آسمان کی بے شمار چیزوں در کار ہیں۔ شیک اسی طرح انسان کے روحانی ارتقا کے لیے ایک دین میدان بلکہ پوری کائنات کی ضرورت ہے۔ نظامِ اسلامی کا قیام اسی پھیلے ہوئے پر دگام کا ایک جزو ہے جو سماجی زندگی کے ساتھ مونماز کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جہاد کی تکمیل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں نظامِ حق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں بلکہ جہاد کی تکمیل یہ ہے کہ آپ اپنی توقیں کا آخری حصہ تک اس راہ میں صرف کر دیں۔ خدا کے بیان جن لوگوں کا شمار انبیاء اور شہداء ہو گا ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ساری جدوجہد کے باوجود وقت کی سو سائیں کو بدل دینے میں کامیاب نہیں ہوئے اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پیغام کو اتنی بڑی اکثریت نے بتول کر لیا کہ وہ سو سائیں کا دین بن گیا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ خدا کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں۔ ان کے درمیان خدا کے بیان کوئی تفرقی نہیں کی جائے گی بلکہ وہ سب کے سب بیجان اعزاز و احترام کے تحت ہوں گے۔ کیونکہ جدوجہد کے نتیجہ کا تعلق دوسروں سے ہے نہ کہ جدوجہد کرنے والوں سے۔ جب خادم نے اپنا کام پورا کر لیا تو بہر حال وہ اپنی خدمت کا صلہ پانتے کا متعلق ہو گیا۔ خواہ دوسرے لوگوں نے اس کی خدمت کو تسلیم کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

اس جدوجہد کا پر دگام کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ راقم کو جو حقیقت آپ کے اور پنکھف ہوئی ہے آپ کے ماحل کے بے شمار لوگ اس سے ناواقف ہیں، بس یہی آپ کے پر دگام کو تحقیق کر دیتا ہے۔ اسلامی سور حاصل ہونے کے بعد جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے اور ہر شخص جنت یا جہنم کی طرف بھاگا گا چلا جا رہا ہے تو اسی سے یہ بھی ہلوم ہو جاتا ہے کہ یہیں کیا کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو آنے والے دن سے ہوشیار کریں۔ ہمارا جہاد یہ ہے کہ خدا کے عذاب سے دور بھاگنے کے لیے اپنی ساری کوشش صرف کر دیں یہوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ حالات کے مطابق لوگوں کو ان کی دنیوی مشکلات سے نکلنے میں مدد دے۔ مگر زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ دنیوی مشکلات سے بخات پانہیں ہے بلکہ آخرت کے عذاب سے بخات پانہیں ہے۔ مومن کا اصل کام یہ ہے کہ اپنی کوششوں کو اس راہ میں صرف کرے۔ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لئے وہ اپنی ساری طاقت لگادے۔

یہ موقع جدوجہد اور خدا کی راہ میں آخری حد تک ٹھرھنے کی اسی کشش کا نام جہاد ہے جس کو حدیث میں وین کی سب سے بلند چوٹی بکاگیا ہے۔ جہاد اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ بندے کے لیے ایک ایسا میدان فراہم کیا جائے جہاں وہ اپنی تمام کوششوں کو خدا کی راہ میں لگا سکے۔ جہاد کی روایت یہ ہے کہ بندہ اپنی کوششوں کو آخری حد تک خرف کر دالتاکہ خدا اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر آخری حد تک نہ ڈھادے جہاً مکملیوں اور دشواریوں کے میدان میں اپنے خدا پرست ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اُدمی اکثر اپنی کوتاہیوں کے جواب میں دشواریوں کی ایک فہرست پیش کر دیتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی دشواریاں وہ تینی مواقع میں جن کے خلاف جدوجہد کر کے آپ اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ جن ذاتی مسائل کی بنا پر اسلام کی طرف ٹھرھنے سے رک رہے ہیں، وہ دراصل آپ کے لیے ترقی کے زینے ہیں۔ یہ اس لیے ہے نہیں ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر رک جائیں۔ وہ اس لیے ہیں تاکہ آپ انھیں بھاند کر آگے ٹڑھ جائیں۔ خدا کے نزدیک اس کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی تناول کو اس کے لیے دفن کر دے، جو اپنے اہم کو اس کی خاطر چھوڑ دے، جو اپنی مشکلات کو نظر انداز کر کے اس کی طرف چلا آئے۔ دنیا میں کسی شخص کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کچھ حاصل کر لے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو خدا کی راہ میں اپناب کچھ ٹھادے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے پوچھا۔ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: "وَهُنَّ مَنْ يَنْهَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" سب سے ایک شخص نے پوچھا۔ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: "وَهُنَّ مَنْ يَنْهَا هُنْ مَنْ يَنْهَا اور میدان جنگ میں اس کا گھوڑا اماڑا رکیا اور وہ خود بھی شہید ہو گیا۔ گویا سب سے زیادہ خوش نصیب و شخص ہے جو بالکل لٹا ہوا اپنے رب کے پاس پہنچے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر انڈیل دے گا۔

محترم رفقار یہ اجتماع جس میں آپ اس وقت شرکیک ہو رہے ہیں اس کی سہرین تعبیر میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ آپ کی طرف سے تجدید عہد ہے۔ آپ نے جماعت میں شرکیک ہو کر پہلے دن اپنے رب سے جو معاہدہ کیا تھا، یہ اس معاہدہ پر آئندہ قائم رہنے کا عزم ہے جو آپ اپنے سیکڑوں رفقار کے میانے کر رہے ہیں اور جس پر خدا اور اس کے فرشتے گواہ ہیں۔ اگر کچھی مدت میں آپ اپنے معاہدے کو پورا کرنے والے ثابت ہوئے ہوں۔ اگر آپ کے دن اور آپ کی راتیں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ آپ اپنے معاہدے میں پورے ازے ہیں تو میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں کہ اس تجدید عہد کا موقع ملنا آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے خوش خبری ہے۔ یہ آپ کی کوششوں کے قبول کیے جانے کا نشان ہے اور اگر آپ اپنے معاہدے کو پورا کرنے میں کوتاہ ثابت ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں آپ کو یہاں آنے کی توفیق دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنے معاہدے کی اہمیت کو بھیں اور جو کچھ پہلے نہیں کر سکے اس کو آئندہ کرنے کا عزم لے کر یہاں سے واپس جائیں۔

آپ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی موجودہ زندگی ہی میں کر سکتے ہیں اور اس زندگی کی مدت

بہت کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ، آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک وقت آکے گا کہ ہم ان کو دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہ ہوں گے۔ ہم اپنی پھر پوری کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہوں گے۔ ہماری موجودہ زندگی وہ پہلا اور آخری ٹھوڑا ہے جب کہ انسان اپنے مستقبل کی تینی کیسے کچھ کر سکتا ہے۔ خدا سے پہلے ایسا کوئی موقع انسان کو ملا تھا اور نہ اس کے بعد ایسا کوئی موقع انسان کو ملے گا، ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا ایک لازمی نتیجہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور بہت جلد ہم ایک ایسے لازمی نتیجے سے دوچار ہوں گے جس کے بعد پھر کسی تیاری کا موقع ہم کو نہیں ملتے گا۔ زندگی کا ہر لمحہ جو آپ صرف کر رہے ہیں، خوب سمجھ لیجئے کہ آخری طور پر صرف کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔

خدا کا دین ہم سے ہماری زندگی مانگ رہا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا پورا وجود اس کے سپرد کر دیں۔ ہمارے دن اور ہماری راتیں اس کے لیے وقف ہو جائیں اپنی طاقت کا آخری حصہ تک ہم اس کی راہ میں لگادیں۔ جو لوگ اس سرفراز شاند جذبے کے ساتھ آگے ٹڑھیں اور جن کے اندر اپنے آپ کو قربان کر کے دین کی خدمت کرنے کا حوصلہ ہو، وہی دراصل دین کی خدمت کریں گے اور جن کے اندر یہ حوصلہ نہ ہو۔ وہ صرف اپنی خدمت کر سکتے ہیں۔ خدا کے دین کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ (رمانہ مر زندگی رام پور جب ۱۹۷۰ء)

**نودٹ:** جماعت اسلامی کے کل مہذا جماعت مقامِ دہلی میں کی گئی ایک تقریب، ۱۲ نومبر ۱۹۷۰ء

## بامقصود زندگی

دھنسٹو! ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں دعوئی رکھتے ہیں کہ ہم با مقصد لوگ ہیں۔ کیوں کہ اسلام زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مگر میں آپ کو یاد دلانا پڑتا ہوں کہ با مقصد ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مقصد ہی تصور آپ کے ذہن میں پایا جا رہا ہو۔ کچھ تقریروں کو شن کریا کچھ تحریروں کو دیکھ کر ایک مقصد ہی نظریہ کی کے دماغ میں پونچ جاتے تو صرف اس پنا پر اسکو با مقصد انسان نہیں کہا جاسکتا۔ با مقصد انسان تو وہی ہے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ با مقصد بن گیا ہو جس کی زندگی اسکے مقصد میں اس طرح داخل جاتے کہ دونوں کے درمیان کوئی دوئی باقی نہ رہے۔

آپ اس وقت ایک سببہ میں مشیج ہیں جس کے اوپر اونچے اونچے مینار کھڑے ہیں اگر ہوا کے ذریعے کچھ آم کے پتے اڑ کر آئیں اور ان میناروں پر اٹک جائیں تو اس بنا پر ان میناروں کو آپ آم کا درخت نہیں کہنے لگیں گے آم کا درخت تو وہی ہے جو اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنہ میں بھی آم ہو، اپنی شاخوں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو، اور وہ آم ہی کے پھل دے۔ آم کا درخت آپ اسی کو کہتے ہیں جو اس طرح اوپر سے نیچے تک آم ہو بعض کسی لمبی کھڑی ہوئی چیز پر آم سے میباہت رکھنے والی کچھ چیزوں کا اتفاق سے جمع ہو جانا اس کھڑی کو ہرگز آم نہیں بنادیتا۔ اسی طرح آپ کو بھی با مقصد انسان کا لقب اسی وقت دیا جاسکتا ہے جب آپ سرے پاؤں تک اپنے پورے وجود میں با مقصد بن گئے ہوں۔ بعض کچھ نظریات کا کہیں سے آئ کر آپ کے ذہن میں اٹک جانا آپ کو با مقصد نہیں بنادیتا۔ اسلام زندگی کا ایک مقصد ہے اور ہم اسی وقت مسلمان کے جانے کے نسبت میں جب ہم نے واقعی ایک مقصد کی طرح اسلام سکو اپنی زندگی میں شامل کیا ہو۔

با مقصد انسان کی پہچان کیا ہے۔ اس کو درجنوں پر ایسے بیان کیا جاسکتا ہے اس وقت میں اسکی چند خصوصیات کا مختصر طور پر ذکر کروں گا۔

۱۔ با مقصد آدمی کی پسلی پچان وہ ہے جس کو میں ”ارتکاز“ کے لفظ سے تعبیر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام فکری اور ذہنی قوتیں آپ کے مقصد میں فرکوز ہو جائیں۔ آپ کا سوچنا، آپ کا محبت کرنا، آپ کا فنتش کرنا، سب کچھ آپ کے مقصد کے ساتھ دابتے ہو گئے ہوں۔ آپ کی کوئی چیز دوسری سمت بھسپری ہوئی نہ ہو۔ جو تابنانے والوں کے یہاں آپ نے دیکھا ہو گا، کام کرتے کرتے ان کے پاس بہت سی کیلیں چسیل جاتی ہیں۔ اس وقت وہ یہ کرتے ہیں کہ مقناطیس کا ایک ٹکڑا لے کر وہاں پھراتے ہیں جس سے تمام بھری ہوئی کیلیں ٹھیخ پھیخ کر اس سے چھٹ جاتی ہیں۔ اور بھر دہ اٹھا کر اسے خانے میں رکھ لیتے ہیں۔ اس مثال میں اُن مقناطیس کی جگہ آپ اپنے مقصد کو تھیں اور کیلوں کے بجائے اپنے افکار و خیالات اور جذبات و احساسات کا تصور کریں تو زندگی اور مقصد کے درمیان تسلی کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقناطیس کے گرد وہے کے ٹکڑے جس طرح ایک ایک کرنے کے اٹھا ہو جاتے ہیں اور اس پاس کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جو اس سے آکر چھٹ نہ گیا ہو، اسی طرح آدمی کے مقصد کے گرد اس کے سارے دل اور سارے دماغ کو مرکوز ہو جانا چاہیے۔

یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میکر یہاں آئے ان کو بازار کا کچھ کام تھا۔ بازار جا کر جب وہ لوٹے تو انہوں نے ایک واقعہ تباہی جس سے مجھے بڑی عبتر ہوئی۔ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے مگر اس میں ہمارے لئے بڑی نصیحت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک جبکہ پونچا جہاں شرک کے کنارے بہت سے موچی اپنی، اپنی دوکان نے میٹھے تھے۔ جب میں انکے پاس سے گذراؤ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر شخص میرے جو تے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جس موچی کی نظر احتیتی ہے وہ بس میرے جو تے پا کر رک جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ موچی بھی اپنے مقصد میں کس قدر کم ہیں۔ ان کو انسان صرف جو تے کی شکل میں نظر آتا ہے بھرے ہوئے بازار میں سینکڑوں انسان ان کے سامنے سے آتے جاتے ہیں۔ مگر انھیں ان انساون سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ان کو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ وہ صرف یہ جلتے ہیں کہ یہ آنے جانے والے لوگ اپنے پاؤں میں ایک ایسی چیز پہنچے ہوئے ہیں جس کی پاش کر کے یا جس کی مرمت کر کے وہ کچھ پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا انسان ان کی نظر میں صرف ایک ”جوتا“ ہے اور اس۔ اسی طرح با مقصد آدمی اپنے مقصد من تم رہتا ہے۔ اس کو ہر چیز میں صرف اپنا مقصد نظر آتا ہے۔ وہ ہر واقعہ کو، ہر سلسلہ کو، ہر بہتات کو اپنے مقصد کی روشنی میں دیکھتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے مقصد کے تصور میں اتنا بخوبی جاتا ہے کہ دوسری چیزیں اسے بخوبی نہ لٹکتی ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو بہت فضال آدمی ہیں جو کام بھی کرتے ہیں اس کو پوری طرح لگ کر کرتے ہیں ایک ایک مرتبہ

میں ایک ایسے زمانے میں ان سے ملنے گیا جب وہ اپنا نیا مکان بنوانے میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پائچا سارے میں ایک بھگ بستے لال لال دھتے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھایا کیا ہے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا، مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد انہوں نے پائچا مامہ اٹھایا تو معلوم ہوا کہ کسی سخت چیز سے مٹکانے کی وجہ سے مانگ میں ایک جگہ چوتھا لگ گئی ہے۔ چوتھا لگ کر انہوں بھا، کپڑے میں لگا، پھر خود بخود سوکھ کر بند ہو گیا۔ اور انہیں مطلق خبر نہیں ہوئی۔ جب آدمی کے سامنے کوئی مقصد جو تو وہ اسی طرح اس میں منہک ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ ایک اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں دوسری چیزیں اُس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ جہاں دوسری چیزیں اُسے محکوم نہیں ہوتیں۔ حیثیٰ کہ خود اپنی ذات کے جہانی تفاصیل سے بھی بعض اوقات اسے یاد نہیں رہتے۔

یہ کا وہ بات ہے جس کو میں نے "ارتھاڑ" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ با مقصد آدمی وہی ہے جس کو اپنے مقصد میں اس درج شغف اور انہاک ہو جائے۔ اس کے بغیر اپنے آپ کو با مقصد آدمیوں کی فحش میں رکھنا، مقصد کے لفظ سے ایک طرح کا مذاق کرنا ہے۔

۲۔ با مقصد آدمی کی دوسری اپچان یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے مطابق زندگی گذارتا ہو۔

"مقصد کے مطابق عمل" سے میں ایک خاص چیز مراد لے رہا ہوں جس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حیکم صاحب ہیں جو ایک دیبات میں دوا علاج کا کام کرتے ہیں وہ کوئی سند یا فتنہ طیب نہیں ہیں بلکہ آدمی ہیں۔ بس لوگوں کی صحبت اور تجربہ کی وجہ سے کچھ باتیں جان گئے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہے بلکہ اپنی سخت اور توجہ کی وجہ سے اپنے علاقہ میں اچھے خاصے متعارف بھی ہو گئے ہیں۔ ایک گھر پر کچھ ٹھیکانی باری کا کام بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں ٹھیکانی کے موٹے کام مثلاً حکونا، ہل چلانا وغیرہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا۔ آپ سمجھیں گے وہ شاید کوئی شیر و ای پوش آدمی ہوئے گے اور اپنی شیر و ای کی عترت رکھنے کے لئے اسے کاموں سے بچتے ہوں گے مگر ان کو شیر و ای اور "پسلون" کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بالکل سیدھے سادے دیباتی حکیم ہیں۔ ٹھیکانی کے سخت کاموں سے الگ رہنے کی وجہ انہوں نے یہ بتانی کہ اگر میں اس طرح کے کام کروں تو میرا ہاتھ سخت ہو جائے گا۔ انگلیوں کی کھال موٹی ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مریض کی نسبت میں ٹھیک طرح سے دیکھنا سکوں گا۔ نسبت کی ضریب میں ٹکلی ہوتی ہیں اور ان میں بہت نازک اور لطیف فرق ہوتے ہیں۔ ان کو محکوم کرنے کے لئے انگلیوں کا فرم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انگلیاں ہل اور کداں پکڑتے پکڑتے سخت ہو جائیں، جس کا اس طرح کا کام کرنے والوں کی ہوتی ہیں، تو وہ تباہ کی ضریب میں محکوم کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔

ہر مقصد اپنے اختیار کرنے والے سے اسی کا تقاضہ کرتا ہے۔ جو شخص بھی کسی مقصد کو

اپنائے، ضروری ہے کہ وہ اپنی عسلی زندگی اور اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کو اپنے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ رکھے۔ وہ دنوں میں کوئی تضاد پیدا نہ ہونے دے۔ با مقصد آدمی ایک باشور آدمی ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر حقیقتہ ایک مقصد اترنا ہولے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ لپنے آپ کو اپنے علی حالات اور اپنے مشائل کی طرف نہ لے جائے جہاں وہ اور اس کا مقصد الگ الگ ہو جائیں۔ جب وہ دیسا بنکرنے والے سکے جیسا اپنے مقصد کے اعتبارے اسے بن کر رہنا چاہیے۔

میں ایک اپنے سلم خاندان کو جانتا ہوں جس کی آمدی اتنی تھی کہ وہ معقول طاقتیے سے ایک سادہ زندگی گذار باتھا اور اسی کے ساتھ دین کے تقاضے بھی پورے کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے پہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی ہوئی۔ اس کے مقصد کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ شادی کو اس طرح کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر میں مولوں کے مطابق جو زندگی چل رہی ہے، اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ مگر اس نے پسلی قلطی یہ کی کہ شادی کے لئے ایک اپنے خاندان کا انتخاب کیا جس کا معیار زندگی اسکے مقابلے میں بڑھا ہوا تھا۔ پھر شادی بھی اس طرح کی جیسے عام دنیا دار لوگ اپنی شادیاں کرتے ہیں۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف اس کے گھر کا سلسلہ اسرای شادی میں لگ گیا بلکہ وہ کافی مقروظ بھی ہو گی۔ اس کے سچے سارے اکار و بارا جھٹا گیا۔ اگر صرف اتنا ہی نقصان ہوا ہوتا جب بھی نسبت تھا، کیوں کہ جس طرح مختلف قسم کے دستی حادثے آدمی کے اوپر پڑتے ہیں اور پھر وہ سبق جاتا ہے، اسی طرح وہ دوبارہ جعل جاتا۔ مگر شادی نے اس کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ جس کا پہلے اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی لڑکی کو اس نے جو کپڑے اور سامان دیتے اور سراں سے اس کے لئے جو کپڑے دغیرہ آئے، اس کی وجہ سے شادی ستمہ لڑکی کی پوشش اور رہن سمن کا معیار یک لیک بہت بڑھ گیا۔ اور جب گھر کی ایک لڑکی کا معیار بڑھا تو اسی کیسا تھد دسروں کا سماں کرنا ضروری تھا۔ پھر اسی کے ساتھ تھے فتح پر سے لدی ہوئی پوری ایک گاڑی بھی اس کے گھر اتری اُن چیزوں کے نتیجے میں اس کی گھر بیوی زندگی کا معیار بالکل مصنوعی طور پر یک بدلتا گیا۔ اب ہر چیز میں پہنے سے زیادہ خرچ ہونے لگتا۔ اس طرح ایک طرف پچھلے قرضوں کی ادائیگی اور دوسرا طرف بڑھتے ہوئے آخر احتجاجات کو پورا کرنا، ایسے دو پاٹ بن چکے جن کے سچے اس کی زندگی پس کر رہ گئی، اس کا گھر دیکھتے دیکھتے کی دینید اُنھر اُنے سے ایک دنیا دار گھر اُنے میں تبدیل ہو گی۔

یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تکنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اسی طرح وہ لپنے دینیوی معاملات میں ایسا ویہ اختیار کرتے ہیں کہ بالآخر وہ انھیں گھیٹ کرتا ہی کے غار میں پوچا دیتا

ہے جو شخص کسی مقصد کے لئے دنیا میں جینا چاہتا ہو، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ باشور زندگی کا گذارے۔ وہ اپنی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ اگر اس نے ہی انہیں کیا تو اس مادی دنیا میں ہر وقت اس کا امکان ہے کہ آدمی ایسے بندھنوں میں اپنے آپ کو بچنا لے جس کے بعد وہ بظاہر زندہ نظر آتا ہو، مگر مقصد کے اعتبار سے اس نے خود کشی کر لی ہو۔ دنیا کی نمائشی چیزوں میں دل سپی سادی ساز و سامان کی کثرت، سطحی مثالیں پڑنا، غیر ضروری عادتوں میں اپنے کو ڈالنا، پست لڑپچھر کا مطالعہ — یہ وہ چیزوں ہیں جو آدمی کو مقصد سے دور کر دیتی ہیں، اس کے وقت کو غیر ضروری مشغولیتوں میں لگا دیتی ہیں، اس کے جذبات و احساسات کو مقصد کے بارے میں گزور کر کے دوسرا چیزوں کے بارے میں شدید کر دیتی ہیں۔ اس کو ایسے تعلقات اور ایسے تقاضوں میں ابجا دیتی ہیں کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود دوسرا طرف حفظتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔

اگر آپ کو اسلام عزیز ہے اور آپ اس کو اپنا مقصد بن کر اسی کے لئے جینا اور اسی کے لیے مرتا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے لازم ہے کہ اپنی علی زندگی، اپنے تعلقات اور اپنی روزانہ کی معروفلیتوں کو اس سے ہم آہنگ رکھیں، آپ دونوں میں کوئی تضاد پیدا نہ ہونے دیں۔ اس معاملے میں آپ کو اس ہوشیار طبیب کی طرح بن جانا چاہئے جو اپنی انگلیوں تک کی اس حیثیت سے خفافت کرتا ہے کہ وہ ایسے حالات سے دوچار نہ ہوں کہ وہ نبض دیکھنے کی صلاحیت کو گھوڑی پھر ایک مسلمان کا مقصد اس سے زیادہ نازک اور اس سے زیادہ مشکل ہے، اس لئے آپ کو اس سے زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اپنی حرکات پر نظر رکھنی چاہیے۔

۳۔ تیسرا چیز با مقصد آدمی کو پہچاننے کی یہ ہے کہ اس کے عمل میں مقصد کی روح موجود ہو۔ یہاں "عمل" سے میری مراد عام عمل نہیں ہے بلکہ وہ عمل ہے جو مقصد کے تعلق سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ تحب نہ کریں۔ مقصد سے متعلق عمل بھی بھی بے مقصد ہوتا ہے۔ بظاہر آدمی مقصد کا سائل کر رہا ہوتا ہے، مگر حقیقتاً اس کے عمل کا مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

ایک مثال لیجئے۔ ہمارے یہاں جو مذہبی فرقے ہیں ان کی ابتداء بھی اصلاً ایک مقصدی گروہ کی حیثیت سے ہوتی تھی۔ وہ ایک مخصوص مشن لے کر اٹھتے تھے مگر ہر شخص جانتا ہے کہ آج وہ اپنی مقصدی حیثیت کو گھوڑپکے ہیں۔ وہ تحریک کے سجائے ایک جام قسم کی روایتی انجمن بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہیں کہ ان کا مقصدی تصور ان کے ذہن سے نکل گیا، اور نہ ایسا ہے کہ مقصد کے لئے کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب چیزوں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مگر ان میں اب وہ اسپرٹ باقی نہیں رہی جو ایک مشن کے علم بردار کے اندر ہوتی ہے۔

اب ان کا مقصد مخفی ایک بحث و گفتگو کا موضوع ہے جس پر وہ کبھی آپس میں کبھی دوسروں سے باہمی کر لیتے ہیں۔ ان کے رسائلے اور اخبار نکلتے ہیں۔ مگر ان رسالوں اور اخباروں کی حیثیت مقصدی پر چوں سے زیادہ کاروباری اداروں کی ہے۔ ان کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ مگر ان اجتماعات کی حیثیت کسی مقصد کی سرگرمی کی نہیں۔ بلکہ وہ اپنی کل پڑی ہوئی ایک تینگ ہے جس پر وہ رسمی طور پر چلنے جا رہے ہیں۔ ان کے جامعی فنڈ بھی یہیں جن میں وہ اپنی آمدی کا ایک حصہ دیتے ہیں۔ مسکریہ دنیا زیادہ تر جامعی تقاضے کے تحت ہوتا ہے زکر حقیقتہ افاق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت۔ وہ اپنے خیالات کو پھیلانے کے لئے دورے اور تقریریں کرتے ہیں۔ مگر یہ سب کسی مقصدی بےتابی کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یا تو محض روایتی ذوق کا انتشار ہوتا ہے یا اسی قسم کے جذبے کے تحت ہوتا ہے جیسے کسی فرم کی پبلیکیٹی برائی کا افسر پہنی ڈیوٹی انعام دینے کے لئے کیا گرتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص موضوعات پر تباہیں اور پفلٹ چھاپتے ہیں۔ مگر اس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی کہ ایک بنے ہوئے ملکہ کی انگ پوری کر دی جائے۔

وہ مسلم جو حقیقتہ داعیانہ جذبے کے تحت نکلتا ہے اور وہ عمل جو روایتی طور پر یا محض ڈیوٹی انعام دینے کے لئے کیا جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک حقیقت ہے اور وہ درحقیقت کی نقل۔ ایک جگہ بات صرف ملک سے نکلتی ہے اور دوسری صورت میں آدمی جب بولتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کلام میں اپنی پوری شخصیت کو انڈیل دیا ہے۔ ایک صورت میں آدمی کا عمل صرف ایک لگنی بندھی کاروائی نظر آتا ہے۔ اور دوسری صورت میں اس کا عمل اس کے بے تاب جذبات کا انتشار ہوتا ہے۔ ایک صورت میں آدمی کی تمام زندگی سراپا اس کے مقصد میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری صورت میں بعض مقصد نہ اچھا، اس کی غیر متعلق زندگی کے ساتھ اس طرح ادھر ادھر اٹھتے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کسی میانار میں آم کے چند پتے۔

یہ خطہ میراں گردہ کو ہے جو ایک مقصد کو لیکر اٹھتے اور اس پر اس کو پکیں پاپاس سال گزر جاتیں۔ لیکن یاد رکھنے کوئی گرودہ اسی وقت تک مقصدی گرودہ ہے جب تک حقیقتہ وہ مقصدی تڑپ کے تحت کام کر رہا ہو۔ اس کے بعد جب اس کی ہماڑی اس سے اتر کر روایتی ڈگر پل پڑے، جب اس کی سرگرمیاں بے تابان جذبات کے انتشار کے بجائے مقررہ کاروانی بن گر رہ جاتیں، تو وہ تحریک کے بجائے رسم اور جماعت کے بجائے انجمن بن جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگرچہ شکلاً وہ ایک با مقصد گردہ کے ماندہ نظر آتا ہے۔ مگر مقصدی حیثیت سے اب اس پر موت دار دھوپ کی ہوتی ہے۔

وہ با مقصد انسان نہیں ہوتا۔ بلکہ سابقہ با مقصد انسان کی لاش ہوتی ہے جو دیکھنے میں سابقہ انسان کی طرح نظر آتی ہے، مگر حقیقتہ انسان نہیں ہوتی۔ — اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ کوئی رسمی ڈھانچہ یا کوئی تنظیمی کارگزاری نہیں ہے۔ ایسے ڈھانچہ یا کارگزاری کا نونہ تو مشینی انسان بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کو ہمارے زندہ شور اور ہمارے بیدار ارادہ کا نذر اڑھ مطلوب ہے۔ اللہ کو ہمارے عمل کا تقویٰ پہنچتا ہے نہ کل کے ظاہری ہنگامے عمل کے دوران ہم اپنے شور کو جس طرح متحرک کرتے ہیں، ہماری نفیات میں جو اندر دنیا پہلی پیدا ہوتی ہے، عمل کرتے ہوئے ہمارے قلب و روح کو جو حیاتی غذا ملتی ہے وہی ہمارا اصل حاصل ہے جب مقدرتی زندہ ہو تو آدمی کا عمل ایک زندہ عمل ہوتا ہے اور جب مقدرتی مر جاتی ہے تو عمل ایک بے روح کا رودائی بن کر رہ جاتا ہے۔ آدمی حرکت کرتا ہے مگر اس کی روح پر جو دطاری رہتا ہے۔ آدمی ظاہری کارنامے دکھاتا ہے مگر آدمی کا اندر دنیا وجود اس طرح سویا رہتا ہے جیسے اس پر نیند طاری ہو گئی ہو۔ آدمی اور پر سے زندہ دکھانی دیتا ہے مگر اندر سے وہ ایک مراہوا انسان ہوتا ہے۔

اب میں ایک آخری بات کہ اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گا۔ اس طرز کی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو بعض لوگ جواب دیتے ہیں۔ — ”اپ کی باتیں تو سب ٹھیک ہیں، ہم خود بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا پاہتے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز کیسے پیدا ہو۔“ یہ بظاہر ایک سوال ہے مگر حقیقتہ اس کے ذریعے سے اپنے الزام کو اپنے سے پہنچا کر اسے خارج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر سوچئے کہ وہ خارج جس کے اوپر آپ اپنا الزام ڈالنا پاہتے ہیں وہ کوئی ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا کا مالک خدا ہے۔ اسی نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اس نے خارج کو الزام دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ دنیا اس ڈھنگ سے بنانی ہے کہ ہم دنیا اپنے ایمانی تقاضوں کو حاصل کرنا چاہیں تو حاصل نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باخل غلط بات ہے۔ خدا میں سے پاک ہے کہ اس پر یا اس کی تحلیق پر اس قسم کا الزام عامہ ہو سکے۔ اس نے خارج پر جب الزام ڈالنیں جاسکتا تو لا محال وہ آپ کی طرف لوئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اینی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا ہو۔ اچھی طرز سمجھ تیجے کہ فطرت اور حقیقت میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ ہم کو ایسا ہی بننا پاہتے تو لازماً ہماری فطرت اور کائنات کو ایسا ہونا پاہتے کہ ہم ایسے بن سکیں۔

اس نے ہر خرابی کا سبب اپنے اندر ڈھونڈنے کیوں کر آپ کے باہر درحقیقت کوئی حسرہ ہی نہیں ہے جہاں یہ اسباب پائے جا رہے ہوں (الفرقان ۷۴) (۱۳۸۲)

## یہ بے حسی کیوں

بھٹکو جب یہ حکم ملا کہ اس وقت کی مجلس میں مجھے کچھ کہنا ہے، تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کیا بات ہے جو مجھے آپ سے کہنی چاہئے۔ یہ تو نکل فضیحت، یا ترکان کے الفاظ میں تو صاف بالحق اور تو صاف بالصبر کی مجلس ہے، اس لئے اس مناسبت سے بہت سی باتیں ذمہ دہیں آئیں۔ میں ابھی سچے ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سوال نے میرے سلسلہ خیال کو توڑ دیا — — تم جو باتیں سوچ رہے ہو کیا وہ سننے والوں کے لئے نہیں ہیں، کیا ان کے کافی بار بار آیا وہ ایک سوال نہیں ان پر ہے ہیں۔ پھر جن الفاظ نے اس سے پہلے کوئی اثر نہیں دکھایا، وہی الفاظ ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ سے کیا انقلاب آجائے گا۔ اس سوال کا آنا تھا کہ میرے سارے خیالات اس طرح منتشر ہو گئے جیسے یا کیا ہوا کا تیز جھونکا آئے اور تنکوں اور پتوں کے دھیر کو اڑائے جائے۔

اب میں دم بخود تھا۔ آخر اس بے حسی کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال میرے سامنے گھومنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے ساری باتیں کہہ ڈالی ہیں اور اب میرے پاس آپ سے کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ میری مثال اس فقر کی سی ہو گئی جو اپنی پوری تقریر ختم کر چکا ہے۔ مگر ساری وقت صرف کرنے کے بعد آخر میں جب وہ حاضرین سے کہے کہ لٹکائے غرہ ”انقلاب زندہ باد“، تو سامنے میٹھے ہوئے ہزاروں انسانوں میں سے کسی ایک کی زبان بھی حرکت میں نہ آئے۔ وہ بار پار کہے کہ ”لٹکائے غرہ“ مگر ہر شخص اس طرح خاموش بیٹھا رہے گویا کسی کے سفیدیں زبان ہی نہیں ہے۔ میں اس وقت مجھے دوسرے ایک آواز سنائی دی۔ مجھے ظریباً کہ امام ترمذی سے لے کر عبی بن عیاض تک انسانوں کی ایک جماعت ایک دوسرے کو پکار رہی ہے کہ آخری رسول کا یہ پیغام اس بندہ خدا کی پہنچا دو، کیوں کہ اسی پیغام میں اس کے سوال کا جواب ہے:

امام ترمذی سے کہا احمد بن مینیع تالحسن بن سوارنا نے، ان سے کہا حسن بن سوارنا نے، ان سے کہا معاویہ بن سعد نے، ان سے کہا معاویہ بن سعد نے، ان سے کہا معاویہ بن صالح نے، صالح نے، ان سے کہا عبد الرحمن بن جیرنے، جیرنے، ان سے کہا ان کے باپ نے، ان سے بیان کیا۔ عکب بن عیاض نے، انھوں نے کہا کہ میں نے سنا بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے فرمایا۔ ہرامت کا ایک فتنہ تھا اور میری امت کے لئے جو جیز فتنہ بنے گی وہ مال ہے۔

اس فقرے میں ”مال“ دراصل ”دنیا“ کا قائم مقام ہے۔ کیوں کہ دنیا کی وہ تمام چیزیں جن کو عاجله پسند انسان پہنچانی ہوئی نظریں سے دیکھتا ہے وہ مال ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں۔ مال دنیا کے ساز و سامان کی قیمت ہے۔ جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، پہنچا دنیا ہر زمانے میں انسانوں کی مگر ابھی کا سبب رہی ہے۔ مگر بعد کے در

حدثنا احمد بن مینیع تالحسن بن سوارنا  
لیث بن سعد عن معاویۃ بن صالح عن عبد  
الرحمن بن جیرنے نقیب حمل شہ عن ابیہ عن  
کعب بن عیاض قال سمعتُ النبيَ صلی اللہ علیه  
وسلم يقول : ان لکل امة فتنۃ و فتنۃ امتی  
المال رترمذی ، ابواب الزہر )

یہ فتنہ پوری شدت سے ظاہر ہونے والا تھا۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر امت اسلامیہ کا فتنہ قرار دیا۔ پہلے آدمی جن لذ اندرونم کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ آج سائنسی تحقیقات کے نتیجہ میں داتھ بن کر انسان کو حاصل ہو چکی ہیں۔ پہلے دنیا کی جو رنگینیاں اور اس کے دل کش ساز و سامان صرف کسی بادشاہ کے محل میں ہوتے تھے، وہ آج خوب صورت الماریوں میں بھے ہوئے بازار کے اندر نظر آتے ہیں، وہ آج درودیوار پر زخمن اشتہارات کی صورت میں لگے ہوئے ہیں، وہ پوری رعنائی کے ساتھ مٹر کوں پر ظاہر ہو کر ہر راہ گیر کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا اس سے پہلے کبھی اتنی حسین نہیں تھی، اس لئے وہ اس سے پہلے انسان کے لئے اتنا بڑا فتنہ بھی نہیں بن سکتی تھی۔

یہاں میں ایک واقعہ کا ذکر کروں گا جو بھی حال میں اخبارات میں آیا تھا۔ نبی دری میں ہندوستان کے بین اقوامی صنعتی میلہ میں امریکہ کی طرف سے ایک ہوائی موڑ کار کی نمائش کی گئی ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر بھی چلتی ہے اور سالٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے۔ اس عجیب و غریب کار کو جیب ایک نوجوان سادھو نے دیکھا تو اس کے سامنے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کیا میں تیاگ اور قربانی کی زندگی کو چھوڑ کر مادی ترقی کی دنیا میں اپنے حصولوں کی تسلیں ڈھونڈوں؟ سادھو نے کہا۔ گیردے کپڑے میں مبوس اور بے بھرے ہوئے بالوں والا ہے ہندوستانی نوجوان میں منت تک اس امریکی کار کو دیکھتا رہا جس کو نمائش کے ذمہ داروں نے مستقبل کی کار Car of the Future کا نام دیا ہے جب اس کے بارے میں سادھو کا تبصرہ پوچھا گیا تو اس نے گھرے تاثر کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے مجھے اس سوچ میں ڈال دیا ہے کہ دو فوں دنیاوں میں سے وہ کون کی دنیا۔ جس کو میں اپنے لئے زیادہ بہتر سمجھوں۔ ”ہندوستان ٹائمز ۲۰ نومبر ۱۹۶۱) یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مادی ساز و سامان نے آج کس طرح ہر شخص کو اس خطرے میں بیٹھا کر دیا ہے کہ وہ ان کی ظاہری چمک دیک سے تاثر بہ کر زندگی کی اصل حقیقت کو بھول جائے۔

اس حدیث سے میراذہن اس طرف منتقل ہوا کہ امت محمدیہ کے افراد میں جب کوئی گوری نظر آئے تو اس کے اسباب سب سے پہلے دنیا کے نعمتوں میں تلاش کرنے چاہیئیں۔ جب اس امت کا فتنہ دنیا ہے تو امت کی خرابیاں بھی دنیا ہی کی پیدا کی ہوئی ہوں گی۔ جب میں نے اس حیثیت سے خور کیا تو بالآخر میراذہن اس پر مطمئن ہو گیا کہ دنیا بی وہ سب سے بڑا روک ہے جو حق کی آواز کو آدمی کے لئے قابل فہم اور قابل قبول بننے نہیں دیتا۔ اسلام کی بلند تر تحقیقوں کو دی شخص پاسکتا ہے جو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو اور پاسٹھا چکا ہو۔ جو اس سے اور پر نہ اٹھ سکے اس کے عین سر کے اور حقیقت کی آواز گونج رہی ہوگی مگر اس کو گرفت کرنے کی طاقت سے وہ محروم ہو گا۔ اس کے پاس وہ کافی نہیں ہوں گے جن سے وہ سنتے اور وہ دل نہیں ہو گا جن سے وہ اسے سمجھے آپ کی معاویت و ترقی کے تمام امکانات اس وقت تک آپ سے دور ہیں جب تک آپ کی توجیہات دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہوں۔ آپ کا مون بننا، آپ کا داعی بننا، آپ کا مجاہد فی سبیل اللہ بننا، سب کچھ منحصر ہے اس بات پر کہ اس

سے پہلے آپ "زهد فی الدنیا" کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرچکے ہوں جو رسول کے الفاظ میں — اول صلاح ہذن کا الاممۃ ہے۔ دنیا پسندی و دوسروں لفظوں میں ظاہر پسندی کا نام ہے۔ اور زهد یہ ہے کہ ظاہری اچیزوں کے سچے جو اصل حقیقت ہے وہ آدمی کے سامنے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا پسندی سلطنت پیدا کرتی ہے اور فرد، سے وہ گھری نظر حاصل ہوتی ہے جو تھے ہوئے واقعات کو بالکل بے نقاب دیکھ لے۔ اور حقیقت سے انتہائی حد تک آشنا ہو کر بول سکے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت پیدا کر دیتا ہے اور اس کی زبان پر کلاماتِ حکمت جاری کر دیتا ہے۔ دنیا کے عیب اور اس کا رض اور علاج اسے دکھا دیتا ہے۔ اور اس کو سلامتی کے گھر (جنت) تک محفوظ لے جاتا ہے۔

ما زهد عبدُ فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمة  
فی قلبه و انطق بیهالسانہ و بصر کاعیب الدنیا  
وداء ها و دواء ها و اخذیجه سالمہ اندار  
السلام (بیہقی فی شعب الایمان)

یہ حکمت جو زہد کے صلبے میں طبقی ہے، یہ خدا کی سب سے بڑی دین ہے جس کو قرآن میں "خیر کشیر" کہا گیا ہے یعنی سب سے بڑا خزانہ۔ قرآن کے بیان سے کہی ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکمت کا خزانہ اسی کو ملتا ہے جو دوسرے خزانوں سے اپنی نظریں ہٹالے، جو دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کر جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں خدا کی راہ میں خیچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہے:

يُؤْتَى الْحِكْمَةُ مِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ  
نَقْدُ ادْتَى خَيْرًا كثِيرًا

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ "خیر کشیر" اسی کو ملتا ہے جو "غیر قلیل" سے اپنے آپ کو خالی کرے، جو غیر قلیل میں پیش ہوا ہو، وہ خیر کشیر سے اپنا دامن نہیں بھر سکتا۔

میں چاہتا ہوں کہ آج کی صحبت میں اسی زہد فی الدنیا کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ یکوں کہ اپنے مطالوں اور تجربہ سے میں اس حقیقت پر مطمئن ہو چکا ہوں کہ جب تک کسی کے اندر زہد کی کیفیت پیدا نہ ہو دین کی اعلیٰ حقیقوتوں کا ادراک نہیں کر سکتا اور نہ اس کے اندر کوئی گھر اعلیٰ عمل پیدا ہو سکتا۔ جس شخص کی آخرت طلبی نے اس کو دنیا کا زاہد نہیں بنایا، اس کے درمیان اور قرآن کے درمیان ایک "مجاہد ستور" حائل رہتا ہے۔ وہ سنتا ہے مگر نہیں سنتا، وہ سنتا ہے مگر نہیں سمجھتا۔ (نبی اسرائیل ۳۶-۳۵)

زہد فی الدنیا کے معنی میں دنیا سے بے رغبتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے دل پسی کا تعلق ختم کر کے اس سے صرف ضرورت کا تعلق یاتی رکھا جائے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کو حدیث میں البخاری من دار الغیر در کہا گیا ہے۔ وہ حوكا دینے والی جگہ سے دور رہنا (اس دور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کار و بار سے

الگ تھلک ہو جائیں۔ زہد دراصل دنیا سے حیاتی بے تعلقی کا نام ہے نہ کہ علی بے تعلقی کا۔ جیسا کہ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا، زہد خراب کپڑے اور معنوی کھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو دل کے اندر پیدا ہونے والے ظاہری شکلیں اس اندر دنی کیفیت کا فطری اٹھا رہیں، نہ کہ بجائے خود کسی ظاہری شکل کا نام زہد ہے۔ یہ بال ممکن ہے کہ ایک شخص جھوپٹری میں رہتا ہو مگر اپنے خیالات و احساسات کے اعتبار سے وہ مکمل طور پر ایک دنیا پسند آدمی ہو۔ اور دوسرا شخص اپنے آپ کو عالمی شان عمارتوں کے درمیان پائے مگر دنیا پسندی سے اس کافر خانہ ہو زہد کسی مصنوعی تدبیر کا نام نہیں ہے۔ بلکہ وہ آدمی کی ایمانی حالت کا ایک فطری اٹھا رہے۔ جب کوئی شخص اعلیٰ حقیقتوں کو پایتا ہے تو اسفل حقیقتیں خود خود اس کی نگاہ میں حیران جاتی ہیں۔ اُخزوی قدر دنی کی اہمیت کا احساس دنیوی قدر دنی کو غیر اہم بنا دیتا ہے۔ وہ اپنی ایمانی کیفیت کے باشکن لازمی نتیجے کے طور پر دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا ذہن خدا کی باتیں سوچنے میں اتنا مصروف ہو کہ آپ دنیا کی باتیں بھولنے لگیں، جب آخرت کی فکر آپ کے اوپر اس طرح چھا جائے کہ دنیا کے غم آپ کو یاد نہ آئیں، جب آنسے والے مستقل آرام و تکلیف کا مسئلہ آپ کو اتنا فکر مند بنادے کہ عارضی آرام و تکلیف کے مسئلے آپ کے نئے ہے حقیقت ہو جائیں۔ جب کل کی زندگی آپ کو اس طرح اپنی طرف پھیتھے کہ آج کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو غافل نظرانے لگیں، جب بلند ترقائقت کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے آپ دنیا میں اس طرح رہنے لگیں گویا آپ دنیا میں نہیں ہیں۔ جب دنیا میں آپ کوئی آرام رکھیں تو یہ سوچ کر رعیتیں کہ معلوم نہیں کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے اور جب کوئی تکلیف ستائے تو آپ کی زیان سے نکلا کہ ”خدا یا دنیا کی معمولی تکلیف کا یہ حال ہے تو آخرت میں کیا ہو گا؟“ جب دنیا کی لذتیں آپ کو تسلیم نہ دے سکیں اور دنیا کی زحمتیں آپ کی نگاہ میں حیران جائیں۔ — جب آپ کا حال یہ ہو جائے تو اسی کا نام زہد فی الدینا ہے۔ اخضور م نے ایک بار اپنے صحابی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی کو پیغام برخیصوت فرمائی تھی، اس کا ایک فقرہ یہ تھا:

عَدُّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْوَرِ رَجَارِيٌّ

اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو  
گویا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کی نعمتوں میں غرق ہوں اور یہاں رہ کر اپنے دل کی تباہی پوری کریں۔ بلکہ وہ تریہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو دنیا کو اپنے تحصلوں اور تمناؤں کا قبرستان بناتا ہے۔

اس تشریح سے خود خود دینہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زہد صرف محربات دنیا سے بچنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آدمی کو بہت سی جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لینا پڑتا ہے۔ بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کھہرا یا یہے ہری حرام ہے اور جو کچھ اس نے حلال کیا ہے وہ سب حلال ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ اس میں بال برابر کوئی رد و بدل کر سکے۔ مگر شریعت کی قانونی حدود بمارے ارتقا کی آخری حدود نہیں ہے۔ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لئے یقیناً صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی احکام کے قانونی تقاضے پرے کر دے۔ مگر ایمان کے عمل

مراتب کو حاصل کرنے کا اندیعہ قانون نہیں، قریانی ہے، اگر آپ خدا کی راہ میں مسابقت کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی فیند، اپنا آرام، اپنی الذین، سب کچھ چھوڑنی پڑیں گی، ذوق اور عادت کو ہمیشہ کے لئے خیر ادا کہ دینا ہو گا۔ حالانکہ یہ سب کچھ آپ کے لئے جائز ہے اور ان میں سے کوئی بھی چیز شریعت نے حرام نہیں قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسری تمام راہوں کی طرح اسلام کی راہ میں بھی ترقی صرف اسی کے لئے ہے جو قانونی تقاضوں سے بلند ہو کر کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو یہ نہ دیکھتا ہو کہ دنیا کی چڑائیاں میں اس کے لئے کیا کیا جائز ہے بلکہ جس کی نگاہ اس پر لگی ہوئی ہو کر کتنے عظیم اختیان میں اسے پیش ہوتا ہے اور اس کے لئے کتنی بے پناہ تیاریوں کی ضرورت ہے۔ ایسا شخص یقیناً بہت سماں ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے گا جو اس کے لئے شرعاً حلال تھیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

<p>لَا يُبَلِّغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَقِينَ حَتَّىٰ يَدْعُ مَالًا يَأْسَ بِهِ حَذَرَ لَهُ بِهِ يَأْسٌ (ترمذی، ابن ماجہ)</p>	<p>کوئی شخص متقویوں میں شامل کئے جانے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں ہے ایسی چیزوں سے بچنے کی خاطر جن میں واقع تحریج ہے۔</p>
---	---

اس "چھوڑنے" کی دو صورتیں ہیں۔ ایک، ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو بذات خود مشتبہ ہوں۔ دوسرے، ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو بذات خود مشتبہ نہ ہوں مگر ان کے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ آدمی کو غلط انجام تک پہنچا سکتی ہیں۔ پہلی صورت میں متعلقہ چیز کی حرمت کا یقین تو نہیں ہوتا مگر اس کی حللت کے بارے میں بھی فرم پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لئے آدمی احتیاط کی بنا پر اسے ترک کر دیتا ہے۔ دوسری صورت میں متعلقہ چیز اصلًا پاک ہو جائز ہوتی ہے مگر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے نتائج پیدا کرے گی جو صحیح نہ ہوں۔ مثلاً دنیا کا عیش داراً رام نے نفسہ باطن جائز ہے۔ مگر ایک حساس مومن انس سے صرف اس لئے بچتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اس میں پر کراں کا نفس موتا ہو جائے گا۔ اس کے درمیان اپنے آپ کو پاک رہ اور اس کے اپنے فائدان غلط قسم کے احساس برتری میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا کی آسودہ زندگی "کامیابی" کا غلط احساس پیدا کرے گی اور اس طرح آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی فکر نہیں آتی طور پر سخاں ہو جائے گی۔

زہری الدنیا سے وہ انسان کیسے بنتا ہے جو ترقی کے اعلیٰ مراتب طے کر سکے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، میں یہاں چند خاص پہلوؤں کا ذکر کروں گا۔

۱۔ زہری الدنیا سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اف میں پہلی چیز وہ ہے جس کو میں استغراق یا زہری یک سوئی کے لفظ سے تبیر کروں گا۔ دنیا سے جتنا زیادہ آپ کا تعلق ہو گا اتنا ہی زیادہ آپ کے خیالات منتشر ہوں گے، اور یہ تعلق جتنا کم ہو گا اتنا ہی آپ اپنے خیالات کو یک جا کر نہیں کامیاب ہوں گے۔ حقیقت ایک نہایت طبیعی چیز ہے اس لئے اس کو گرفت کرنے کے لئے غریموں ذہنی ارتکاز بہت ضروری ہے جس نے اپنی فکر کو مختلف سمتوں میں پھیلا

رکھا ہو وہ ہرگز اعلیٰ حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تاریخِ سائنس کا عظیم ترین نام ”نیوٹن“، اپنے پچھے جو عظمت رکھتا ہے اس کا سب سے بڑا راز نیوٹن کا ذہنی استفزاق تھا۔ وہ اپنے پہن میں، Wool Gatherer کہا جاتا تھا۔ یعنی کھربیا ہوا شخص۔ لوگ اسے نیوٹن کا طبعی نفس سمجھتے تھے۔ مگر بعد کو معلوم ہوا کہ اس کی یہ کیفیت اس کی استفزاقی صلاحیت کی وجہ سے تھی۔ وہ کسی مسئلہ خاص پر ذہن کو بالکل ترکیز کر کے سوچنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا تھا۔ اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے وہ بہت جلد سائنس کی تدبیک سینچ جاتا تھا۔ اور انتہائی پیچیدہ سوالات جن کے حل کرنے میں ورسے لوگ ہمیں تو نگاریتے تھے وہ اپنی ہمنشیوں میں حل کر کے رکھ دیتا تھا۔

اگر آپ اس کے کمرے میں داخل ہوں تو آپ کے سامنے کتابوں اور کاغذات کی ایک بے ترتیب زنجیر ہو گی جس میں کسی اہتمام کے بغیر ایک شخص اس طرح کھڑایا بیٹھا ہوا نظر آئے کا جیسے وہ کوئی مجسم ہے جو کسی اسکیم کے بغیر اس ڈھیر میں لا کر ڈال دیا گیا ہے۔ مشہور سائنس دان ادمونڈ ہلی Edmund Halley جس کے نام پر ایک دمار ستارہ ہیلی کامٹ Halley Comet کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ دمار ستارہ معلوم تو کر لیا تھا مگر اس کے دمار کا حساب لگانے میں وہ کوشش کے باوجود ناکام رہا۔ اس سلسلے میں مد دیتے کے لئے وہ نیوٹن کے پاس گیا۔ وہاں یہ سن کر اسے سخت تیرت ہوئی کہ ابھی ہرئے بالوں والا یہ آدمی اس کو پہلے ہی حل کر چکا ہے۔ اس نے اس کا حساب دیکھنا چاہا۔ مگر یہ نیوٹن کا کرہ تھا۔ کوشش کے باوجود بھرے ہوئے بے ترتیب انبار میں متعاقہ کاغذ برماء مدنہ ہر سکا۔ نیوٹن نے خوراکی ایک سادہ کافریا اور اس انتہائی پیچیدہ ریاضیاتی سوال کو دوبارہ حل کر کے اسی وقت ہیلی کے سامنے رکھ دیا۔ ہیلی اس واقعہ سے بہت متاثر ہوا جب اسے معلوم ہوا کہ نیوٹن کی تصنیف Principia ابھی تک اس کے دسک کے ایک خانہ میں ردی کاغذات کی طرح بھری ہوئی رکھی ہے، قاس نے کہا کہ ایسے قیمتی دماغ کے انکار اس طرح پڑے رہنے کے لئے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے خرچ سے اس کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح نیوٹن کی یہ کتاب پہلی بار دنیا کے سامنے آئی۔

نیوٹن صرف مادی دنیا کے کچھ حقائق جاننا چاہتا تھا، اس کے لئے اُسے اس طرح مستغرق ہونا پڑا کہ وہ اپنا کھانا، اپنا سونا، اپنا آرام، اپنا ذوق، اپنی عادیں، سب بھولی گیا۔ تو آپ جو غیر مادی حقائق کا تصور اپنے ذہن میں جانا چاہتے ہیں، ان کو شدید ذہنی استفزاق کے بغیر کس طرح پاسکتے ہیں۔ انسان پر جو ستارے جگتا تھے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی حرکت کے قوانین منضبط کرنے کے لئے نیوٹن کو انکار میں اتنا ڈوبنا پڑا گیا اس نے اپنے آپ کو دنیا سے انکار اسی خلامیں پہنچا دیا ہے جہاں یہ روشن اجسام حرکت کر رہے ہیں۔ پھر وہ حقیقتیں جو ستاروں سے بھی دور ہیں، جو نہایتی ہوئی شکل میں بھی آنکھوں کو نظر نہیں آتیں، ان کو بے پناہ ذہنی یکسوئی کے بغیر کیسے گرفت کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح خدا کی عبارت کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت اور جنت دریزخ کا تصور ہر وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ جہاں ہوں اور جو کام ہی کر رہے ہوں، ہر حال میں آپ کا سینہ ”ذکر کشیر“ سے بریز رہے۔ اگر آپ اپنے اندر

وہ شدید پیشی اور وہ زبردست استحضار دیکھنا چاہتے ہیں جو دل کو بچلا دے اور آنکھوں کو اشکبار کر دے تو یہ سب کچھ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کے الفاظ میں "تشعیب ہوم" کو ختم کر کے اپنی ساری نظریں صرف ایک نقطے پر لگادیں۔ ارجمن کے مشہور واقعہ کی طرح آپ کو درخت اور پڑا اور پتے اور پھل نظر نہ آئیں بلکہ صرف ایک چیز نظر آئے — "شکار کی بائیں آنکھ"

جب آپ یہ فتنی گم شدگی اور یہ استغراق اپنے اندر پیدا کریں گے تو عادت اور ذوق کے تقاضے آپ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوں گے، لذتوں اور ساسشوں کا خیال مرحم پر جائے گا۔ فکر کی زیادتی جسمانی تقاضوں پر غائب آئے گے۔ آپ کا ہنسنا اور بونا کم ہو جائے گا، تصوراتی دنیا کو پانے کی کوشش میں آپ مادی دنیا سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت ممکن ہے وگ کہیں تم پاگل ہو گئے ہو۔ مگر اس سے گھبرا یئے نہیں، کیونکہ یہی وہ صحیح ترین خطاب ہے جو کسی یا مقصود آدمی کو اہل دنیا کی طرف سے دیا جاسکتا ہے۔

۲۔ زہد فی الدنیا کے ذریعہ دوسرا چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ لطافت روح ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی دنیا میں آدمی جتنا زیادہ مشغول ہوگا۔ اس کی روح میں اسی قدر کشافت پیدا ہوگی۔ اور جتنا وہ اس سے اپنے آپ کو دور رہ جائے گا اسی کے بقدر اس کی روح پاک اور خالص ہوتی چلی جائے گی۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں رہبانیت کی تبلیغ کر رہا ہوں، رہبانیت دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کا نام ہے حتیٰ کہ اس مقصود سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مارڈا لے تو یہ بھی رہبانی فلسفہ کے مطابق جائز ہوگا۔ اس کے بر عکس زہد یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر اسی دنیا میں ہو۔ مگر اس سے بے رغبت ہو چکا ہو۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے فتنی حیثیت سے اس سے باہر نکل جائے۔ مومن بھی یقیناً راہب ہوتا ہے۔ مگر اس کی رہبانیت حقیقت رہبانیت ہے جب کہ دوسرے مذاہب جسمانی رہبانیت میں عقیدہ رکھتے ہیں۔

"اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دودل نہیں بنائے" اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے احساسات کی ایک ہی چیز کے بارے میں شدید ہر سکتے ہیں۔ وہ دمکتوں میں حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دنیا اور اس کے سازد سامان کا ہمیت دینے لگیں تو آخرت کا خیال آپ کے اندر کمزور پر جائے گا اور اگر آپ آخرت کی فکر میں مشغول ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ دنیا کے بارے میں آپ پر غفلت طاری ہونے لگے گی۔ جو شخص دنیوی قدریوں کو اہمیت دیتا ہے، اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اُخڑی قدریوں کو پامال کر رہا ہے۔ آپ کو ایسے "خوش مذاق" میں گئے جن کے کھانے کی پیٹ میں سمجھی پر جائے تو وہ اس کو کھانا پسند نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ان کے اسلام میں کتنے ہی مکھیاں پڑی سڑھی ہوں گی۔ مگر اس کی عفونت کا انھیں اندازہ نہ ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی طرف رفتہ نے آدمی کی حیات کو دنیا کے بارے میں تو بہت تیز کر دیا، مگر اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ آخرت کے بارے میں اس کی حیات کند پوکرہ گئیں۔

یہ دنیا جو آپ کے جسم کو موتا کرتی ہے۔ یہ آپ کی روح کی قاتل ہے۔ اگر آپ اس کے اندر لذت ڈھونڈنے

لگیں، اگر اس کے سطحی اور ظاہری ساز و سامان آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں، تو وہ آپ سے آپ کا سب سے بڑا جو ہر چیز ہیں گے۔ اس کے بعد آپ کے نازک جذبات مردہ ہو جائیں گے، آپ کے اندر وہ لطیف احساسات ابھر نہیں سکتے جو اٹلی ترین حقائق کا دراک کرتے ہیں۔ جن پر تجھیات الہی کا نازدیک ہوتا ہے۔ جس کے بعد آدمی تمام جذبات سے بند ہو کر حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا نہیں مہنئی، اس کے اندر رگویا وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہونی جو کسی حقیقت کو سمجھے اور اسے قبول کر سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسے دل میں حکمت کا "انبات" نہیں ہو سکتا۔ جس زمین میں اخذ کی صلاحیت تھے ہو وہ کیسے کسی بیج کو قبول کرے گی اور اس کے اندر ڈالا ہوادا نہ شود مگر پورا درخت کیسے بن سکتا ہے۔ یاد رکھئے، حقیقت ایک غیر مادی ہیز ہے۔ اس لئے وہ روح جو مادی آلاتشوں میں پھنسی ہوئی ہو، وہ حقیقت کو بنے نقاب حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا مشاہدہ ہمیشہ دھندا لا مشاہدہ ہو گا جس میں حقیقت کے بعض رُخ دکھائی دیں گے اور بعض رُخ نظریوں سے اوچھل ہو جائیں گے۔

روح کی رطافت اور کشافت کوئی نصوف کا پاس اسرا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ بالکل ایک سادہ حقیقت ہے جس کو ہر شخص معنوی غور و فکر سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا جو حسیاتی اور تصوراتی وجود ہے وہ کسی اور کی محبت میں اٹکا ہوا ہے یا اس نے اپنے آپ کو دوسرا تامین چیزوں کی گرفت سے بالکل خالی کر دیا ہے۔ تاکہ مالکِ حقیقی کی یاد آپ کی روح کو اپنا مکن بناسکے۔ گرسیوں میں اگر مسجد میں محلی کا پنکھا چلایا جائے اور اس کی ہوائی نماز ادا کی جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی اسے ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو یہ حال ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے لئے آنے والے پنکھے کے نیچے جگہ حاصل کرنے کے لئے مسابقت کرتے ہیں۔ حقیقت کہ نماز کے دو دن میں اگر کرنٹ رکنے کی وجہ سے پنکھا بیند ہو جائے تو سلام پھیرتے ہی ہر شخص کی نظریاً اور پاٹھ جاتی ہیں اور نماز کے بعد پا اور سپلانی کے انتظام کی خرابی وہ اہم ترین موضوع ہوتا ہے جس پر لوگ اپنے جذبات اور اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی آرام طلبی نے آپ کی روح کو گند اگر دیا۔ اس میں گرمی اور سردی کے مسائل نے اپنے آشیانے بنالئے ظاہر ہے کہ ایسا آدمی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جو ساری لذتوں سے بڑھ کر لذیذ ہے۔ جس میں مشغول ہو کر آدمی اگر دوپیش سے بنے خبر ہو جاتا ہے، جب ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنی دنیا سے نکل کر خدا کی دنیا میں پہنچ گیا ہے۔

مجھ کی بار بار اس کا تجھر ہوا کہ ایک شخص اپنے ذوق اور اپنی عادتوں کے معاٹے میں تونہا یت حساس ہے۔ اپنے طبعی تقاضوں میں کمی کو وہ کسی حال میں برداشت نہیں کرتا۔ گرایسے معاملات جو خدا اور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو اس کی دوامی زندگی کو بہتر یا بدتر بنانے والے ہیں ان میں وہ اکثر نہایت سنگین حقیقوں کو اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے گویا ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس کے سامنے آپ قرآن و حدیث کے صریح ارشادات پیش کیجئے، مگر وہ ایسے سرسری جوابات دے کر بات کوٹاں دے گا کہ آپ جیرت میں یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ ”دوبارہ ان کا کوئی جواب نہیں دوں یا نہیں“، اس کی وجہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دنیا سے اور اٹھا نہیں سکا۔ اس کے ایمان بالآخرۃ نے

اس کی روح کو ابھی تک دنیا کی کثافتون سے پاک نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی حیات انھیں معاملات توہین زیادہ کام کریں گی جہاں وہ عمل اپنے ہوا ہے۔ مگر جس دنیا سے وہ دور ہے جہاں اس نے ابھی تک اپنے آپ کو پہنچایا نہیں اس کی حقیقتوں کو وہ کیسے گرفت کر سکتا ہے اور ان کے ذکر سے کس طرح اس کے اندر بدل چل پریا ہو سکتے ہے — شخصیت پرستی کسی کے ذہن کی تمام کھڑکیاں بند کر دے تو حق کی روشنی اس کے اندر کس راہ سے داخل ہو گی۔

اگر آپ چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور بیکا یک تارائے کہ آپ کے اکلوتے رٹکے کا انتقال ہو گی، تو

دوسرا لوگ جیسے پہلے تھے دیسے اب بھی رہیں گے مگر آپ ترک پڑھیں گے۔ آپ کی حالت باصل بدل جائے گی۔ اس کی وجہ سیکھ کے تمدنی شخص کے متعلق خیرانی ہے اس کی خبر سننے کے لئے پہلے سے آپ کے دل کے تمام گوشے خالی تھے اس لئے وہ سیدھی آپ کے دل میں گھس گئی۔ اس کے برعکس بقیہ لوگوں کے دل میں اس نے جانے کا راستہ نہیں پایا کیوں کہ ان کے دل کچھ دوسرے لوگوں کی محنت سے بخوبی ہوتے تھے۔ شیخ اسی طرح جب قرآن کی "ملاوت" ہمہ ہی ہو۔ جب کلمات حکمت سنائے جا رہے ہوں، جب کوئی منادی کرنے والا ایمان کی منادی کر رہا ہو، تو اس کی آواز انھیں لوگوں کے دل سے ٹکرائے گی جنہوں نے اپنا سینہ اس کے لئے کھلا رکھا ہو۔ اور جس نے اپنے اندر وون کو دوسری پرستشوں کا گودام بنارکھا ہے اس پر کوئی آواز اشہنیں کر سکتی، وہ تو اسی وقت سننے لا جب صافۃ عظیم اس کے کان کے پردے پھاڑ دے۔

۳۔ زندگی تسلیم ہے کہ وہ آپ کے لوازم زندگی میں کمی کر دیتا ہے۔ ہر یا مقصد آدمی فطرتاً ایک تضاد میں بتلا کیا گیا ہے۔ ریک طرف اس کے جسم کے تقاضے ہیں جن کی فہرست کا کوئی شمار نہیں۔ اور دوسری طرف اس کا مقصد ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ ساری توجہ اسکی کی طرف لگادی جائے۔ اس تضاد کو ہم بالکلی ختم نہیں کر سکتے ہماری بہترین عقل مندی یہ ہے کہ ہم اسیں کی کی کو شش کریں۔ دنیا کے تمام وہ لوگ جنہوں نے کوئی بڑا کام انجام دیا ہے، وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لئے مجبور تھے کہ اپنے لوازم حیات میں ہر ممکن حد تک کمی کریں۔ آپ کے سامنے بھی ایک عظیم مشن — دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینے کا مشن، ہے۔ اس نے الگ آپ اسے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسی اصول پر عمل کرنا ہو گا۔ البتہ اس میں اسلام کے اپنے نظریے زندگی کا لحاظ ضروری ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نیوٹن کی طرح شادی نہ کریں۔ مگر یہی یہ ضرور ہوں گا کہ آپ نیوٹن کی طرح سکٹ نہ پیسیں۔ یوں کہ شادی ایک حقیقی ضرورت ہے جب کہ تباہ کو، انسان کی فطری ضرورتوں پر ایک مصنوعی ضرورت کا اضافہ ہے۔ لوازم حیات میں کمی کا یہ سلسلہ تو باصل واضح ہے کہ وہ آپ کو اپنے مقصد میں زیادہ حصہ لینے کے قابل بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی دیگر ضروریات کی فہرست جتنی مختصر ہو گی، اسی کے بعد آپ اپنے مقصد کے کاموں کے لئے زیادہ فارغ ہوں گے۔ خلا کا ایک سافر را کٹ میں بیٹھ کر تین سو میل فی منٹ کی رفتار سے اڑتا ہے۔ مگر اس سفر میں جو بھاری مبوسات اور مختلف قسم کے آلات سے دہلیں ہوتا ہے، ان کو اپنے جسم پر لادے ہوئے زمین پر پیدل چلنا ہوتا ہے چندیل بھی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جاسکے گا۔ اسی طرح الگ آپ نے اپنی زندگی کو حقیقی ضروریات

کے ماسو اور بہت سی ضرورتوں کا عادی بنایا ہے تو ان کو لئے ہوئے آپ زمین پر نہیں چل سکتے۔ جب تک یہ لوازم آپ کے گرد مہیا ہوں آپ تحریک نظر آئیں گے۔ مگر جہاں یہ لوازم رخصت ہوئے، آپ اسی طرح اپنے آپ کو بے بس پائیں گے جیسے مغلیہ سلطنت کے آخری شہزادے پاگلی کی کی سواری کا عادی ہونے کی وجہ سے غدر کے وقت بھاگ نہیں سکے اور ان کے دشمنوں نے عمل میں ٹھس کران کے بستروں پر اٹھیں قتل کیا۔

گروازم حیات کو محض کرنے کا ایک اور فائدہ ہے جو اسلامی اعتبار سے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ یہ کہ اس طرح کے لوازم میں جتنی کمی ہوگی اسی کے بعد رہاپ کے اندر زیادہ سونا اور اخلاص پیدا ہوگا۔ اگر آپ کو ایک ہزار سیل دور سے آگر یہاں تقریر کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لئے اپیشل سلوں میں سفر کرنا ضروری ہے تاکہ جب میں اسیشن پساتروں تو بالکل تازہ دم رہوں اور جلسہ گاہ پہنچ کر اپنے موصوع پر اچھی طرح بول سکوں، بیشک آپ کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔ کسی کو جو اتنے نہیں کہ اس کے خلاف فتویٰ دے سکے۔ بلکہ بہت سے ظاہر بیرون کو آپ کا نور خطا بتا دیں کی تھویت ماننے پر یہاں تک جلد کر سکتے ہے کہ وہ آپ کے لئے مخصوص سلوں میں سفر کرنا ہی افضل سمجھے۔ لگیں کیونکہ اس کے بغیر اتنی شان دار تقریر وجود میں نہیں آ سکتی ہتھی۔ مگر میں کہوں گا کہ خدا کو شان دار تقریر مطلوب نہیں ہے۔ اس کو تو آپ کے دل کے ٹھکرے در کار ہیں۔ اور وہ تقریر چند میں آپ کے دل کے ٹکڑے الفاظ بن کر تکلیف، جو وقت ملکن ہے جب کہ آپ بے آلامی سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہوں گا میں یہاں تک اپنے آپ کو لانے میں آپنے مشقت اٹھائی ہو جو آپ کے لئے بعض سفر نہ ہو بلکہ خدا کی طرف بڑھنے کا ایک مجاہد ہو۔ ایسی ہی ایک نبان سے کلمات دندل سکتے ہیں۔ در دنہ کلام، خدا کا ایک الہام ہے جو براہ راست عالم الغیب و الشہادة کی طرف سے آپ کے اوپر القایا جاتا ہے۔ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا الہام ایک "قول ثقیل" ہے جو کسی ایسے قلب بی پساتر سکتا ہے جو "وطاشدید" کے مرٹل سے گزر چکا ہو (سورہ مزم)

امام احمد اور امام ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنے رسول کو سونے کی عنیت میں کان دینے کی پیش کش کی، رسول نے جواب دیا، خدا یا نہیں، بلکہ مجھے اس طرح رکھئے کہ کسی روز کھاؤں اور کسی روز بھوکا ہوں۔ تاکہ جب میں کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کر دوں اور جب بھوک تائے تو آپ کے سامنے گریہ و زاری کر دوں۔ اس سے معلوم ہو اکارادمی حالات کے بغیر اپنے اندر کیفیات پیدا نہیں کر سکتا۔ جو حالات سے خالی ہو جائے وہ کیفیات سے بھی خالی ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سختی اور مشقت کے لمحات اپنے اندر دو طرف فائدہ رکھتے ہیں۔ ایک طرف ان سے وہ "درد" حاصل ہوتا ہے جو دل کی زندگی ہے، جو آپ کو احساسِ حیات سے آشنا کرتا ہے۔ جوانان کی اندر وہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے والا ہے۔ دوسرا طرف مشقت کے لمحات ہیں آپ کی راحت کے لمحات کو اسلامی رنگ دیتے ہیں۔ وہ آدمی کو اس قابل بناتے ہیں کہ جب وہ ایسی کمی چیز دیکھے تو اس کا دل شکر کے جذبے سے لبریز ہو جائے۔ جو درد سے خالی ہے وہ زندگی سے خالی ہے، اور جو زندگی سے محروم ہو وہ کیسے کوئی بات سنے گا اور کیسے کوئی بات قبول کرے گا۔

۷۔ زہدی الدین اکا کا ایک اور پہلو ہے۔ وہ یہ کہ ایسا آدمی حرام اور مشتبہ چیزوں میں پڑنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابھی طرح بھی مجھے کہ ناجائز چیزوں کے ارتکاب سے دھی شفعت پر سکتا ہے تو جائز حدود میں بھی پڑ کر چلتا ہے۔ جو تمام "جائز" چیزوں کو اپنا ضروری تھی، ایسے آدمی کے لئے ہر وقت خطرو ہے کہ وہ کسی حرام کام میں پڑ جائے۔ حدیث کے الفاظ میں، ہر بادشاہ کی ایک ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے اور خدا کی چراگاہ وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے حرام قرار دیا ہے جو شخص سرحد تک اپنے مویشی چراگاہ پر جائے اس کے لئے ہر آن یہ خطرو ہے کہ مویشی کیسی چراگاہ کے اندر نہ کس جائیں۔ (تفہیم طلیہ) عورتوں کے لئے زیب دزینت بالکل جائز ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ گھر جس نے اس جوانہ کو اپنے لئے کھلا دروازہ بھی یا ہے، آج اس کے یہاں غیر مسالسل بوسات اس طرح استعمال ہونے لگے ہیں کہ اب لوگوں کو شاید ان کے ممنوع ہونے کا بھی احساس نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے بے دین گھرانے اور اسلام پسند گھرانے میں مبنی اتنا ہی فرق رہ گیا ہے کہ ہمارے گھروں کی عورتیں اور لڑکیاں خاندان اور رشتہ کے لوگوں اور دوسرے ملنے والوں کے سامنے اپنی غیر شرعی پوشش کا مظاہرہ کرتی ہیں اور دوسرے گھروں کی عورتیں اپنے اس فتنہ کو لئے ہوئے باناروں اور شرکوں پر ٹکل آئی ہیں۔ اسی طرح سرکاری ملازمتوں میں جو لوگ ترقی کرتے ہیں یا اپنے ہبہے حاصل کرتے ہیں وہ ضمیری کی قربانی دے کر ہی ان مناصب تک پہنچتے ہیں میں موجودہ زمانے میں کسی اونچی کرسی کو پہنچنے کا لئے جویا تقت در کار ہے اس میں سے ایک ضروری چیزیں بھی ہے کہ دین کو آپ اپنے اندر سے کھریج کر نکال دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بادشاہوں سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں کہا تھا "اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاہ ہے، تم ان کی دنیا میں سے جتنا پاؤ گے اس سے زیادہ وہ تھمارے دین میں سے لے لیں گے" یہ بات جدید بادشاہت کے بارے میں بھی اسی طرح صحیح ہے جیسے وہ قدریم بادشاہت کے بارے میں صحیح تھی۔ اس فرق کے ساتھ کہ یہلے وہ دین کا زیادہ حصہ لیتے تھے اور اب وہ آپ کا کل دین لے لیتے ہیں۔

ایک بڑے تاجر نے ایک مرتبہ کہا کہ موجودہ زمانے میں بالکل جائز طریقہ پر کوئی بڑا کاروبار نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں آپ کی آمدی ایک خاص حد سے آگئے تھی، بے شمار قوانین آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ آپ مجور ہوتے ہیں کہ غلط طریقے سے کام کریں۔ ورنہ آپ کوئی نامہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے کاروبار کا آپ کو ملک کس نے کیا ہے؟" جواب دینے والے نے جواب دیا۔ مگر موجودہ انسان کو اس قسم کے جوابات سے کوئی دل چیزیں نہیں۔ اس نے قریبے کر رکھا ہے کہ وہ اپنے امکان بھراں تمام نعمتوں کو حاصل کرے گا جو خدا نے زمین پر پیدا کی ہیں۔ اس نے یہ بھی ہمدردی ہو گیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے لئے حلال کرے جس کو خدا نے حرام ٹھیک رکھا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ترقی کا ہر واقعہ جو آپ کو اپنے گرد پیش نکلا آتا ہے، وہ صرف حکمت زہد سے محدودی کا ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی بڑھتے بڑھتے خدا کی حرام کی ہوئی حرج اگاہ میں گھس گیا ہے۔ اس کے بغیر وہ اتنی غیر مسولی فربہی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔

ممکن ہے یہ باتیں سن کر آپ کہیں کہ اسلام کا مطلب اگر تھی ہے تو اس کا پانابست مشکل ہے۔ بیشک اسلام کا

پانابہت مشکل ہے مگر وہ خدا کی مدد سے آسان ہو سکتا ہے۔ حضرت سعیؑ نے جب روح دین کی تشریع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ "میں تم سے کہتا ہوں کہ اوتھ کاسوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولتِ مدد خدا کی بادشاہی میں داخل ہو" تو ان کے شاگردیہ سن کر بہت اچھے ہیں پڑے گئے اور کہنے لگے کہ پھر کون بخات پا سکتا ہے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا — "یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا بلکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے" اگر آپ اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ حیات طیبہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو اس کو پانے کی صورت یہی ہے کہ آپ اسے خدا سے مانگیں۔ دوسرا یہ تمام چیزوں کی طرح یہ سب سے قسمی چیز ہی آپ کو خدا ہی سے ملے گی۔ کہیں اور سے آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر یاد رکھئے خدا سے مانگنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دعا کے کچھ مقرر الفاظ یا دکر لیں اور اسے اینی زبان سے دھرا دیا کریں ایک عیسائی عالم کے الفاظ میں:-

God is not a Cosmic belly-boy for whom  
we can press a button to get things.

خدا سے مانگنے کی اصل زبان وہ نہیں جو لفظوں کی صورت میں اپنے مطالبات کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے مانگنے کی زبان آپ کا قلب ہے۔ آپ اپنی حقیقی زندگی سے جو کچھ چاہ رہے ہیں وہی وہ اصل آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ خدا آپ کے لفظوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ خود آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنے اصل وجود میں جس چیز کے لئے بے قرار ہوں اپنے رب سے آپ اسی چیز کے طلب کاریں۔

ایک بچہ اپنی ماں سے روٹی مانگنے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ماں اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دے۔ خدا اپنے بندوں پر اس سے زیادہ ہماراں ہے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا سے خشیت مانگیں اور وہ آپ کو قساوت دیے۔ آپ خدا کی یاد مانگیں اور وہ آپ کو فیضان میں بنتلا کر دے۔ آپ آخرت کی تربیت مانگیں اور وہ آپ کو دنیا کی محبت میں ڈال دے، آپ کیفیت سے بھری ہوئی دینداری مانگیں اور وہ آپ کو بے روح دینداری میں پڑا رہنے دے۔ آپ حق پرستی مانگیں اور وہ آپ کو شخصیت پرستی کی تاریک کوٹھری میں بند کر دے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی مطلوب چیز کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کو مانگا ہی نہیں۔ اگر آپ کو دو دھن خریدنا ہو اور آپ چلنے کے کہ بازار جائیں تو خدا ہر ہے کہ پیسے فریض کرنے کے باوجود آپ خالی ہاتھ وہاپس لوپیں گے۔ اسی طرح اگر زبان سے آپ دعا کے کلمات دھرا رہے ہوں مگر آپ کی اصل سہی کسی اور طرف متوجہ ہو تو میں کہوں گا کہ نہ آپ نے مانگا تھا اور نہ آپ کو ملا۔ جو مانگنے وہ بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھئے، یہ مالک کائنات کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی بندے کو اس حال میں رہنے دے کہ قیامت میں جب خدا سے اس کا سامنا ہو تو وہ اپنے رب کو حضرت کی نظر سے دیکھے۔ وہ کہے کہ خدا یا میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی مگر تو نے مجھے نہ دی۔ بخدا یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ کائنات کا مالک تو ہر صبح و شام اپنے سائے خزلنے کے ساتھ آپ کے قریب ترین اگر آزاد دیتا ہے۔ "کون ہے تو مجھ سے مانگنے تاکہ میں اسے دوں" مگر جھینیں لینا ہے وہ سوچئے ہوں تو اس میں دینے والے کا کیا تصور۔ (زندگی شبیان ۱۳۸۱ھ)

— تقریب حلقة دار اجتماع جماعت اسلامی ہند بمقام جون پور۔ ۱۲ نومبر ۱۹۶۱ —

## دعوتِ اسلامی کے کارکنوں کی ذمہ داریاں

دنیا میں روزانہ لاکھوں آدمی پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں۔ وہ یہاں آنکھیں بند کئے ہوئے آتے ہیں اور انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہئے۔ پھر صحیح یا غلط جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا ہے کرتے ہیں اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے اسی دنیا کی طرف لوٹ جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں جائے ہے ہیں اور آئندہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ ایک عظیم خطرہ ہے جس سے انسانی نسل دوچار ہے۔ دنیا کی مثال ایک ایسا ارلی گاڑی کی ہے جو بہت تیزی کے ساتھ اپنی ٹری پر دوڑی چلی جا رہی ہے۔ اس کو کچھ نہیں معلوم کہ آئے گی کیا ہے۔ حالانکہ آئے گا پہلی ٹوٹ چکا ہے اور دہاں پہنچتے ہی وہ اپنے اجنب اور گاڑی سمیت الٹ جائے گی اور اس کے بعد تمام مسافر خواہ وہ اپر کے درجہ میں سفر کر رہے ہوں یا شیخ کے درجہ میں، سب کے سب ایک ہی ہولناک انجام سے دوچار ہوں گے، حتیٰ کہ اس وقت کوئی خطرہ کی زنجیر بھی نہ ہوگی جس کو پہنچ کر وہ اپنے آپ کو تباہی سے بچا سکیں۔ یہ زندگی کے بعد آنے والے روز حساب کا خطرہ ہے جو ہم کو اور سادی دنیا کو درپیش ہے۔ یہ اس اصل زندگی کا مسئلہ ہے جو ہمارے آج کے اعمال کے نتیجے میں ہم کو آئندہ دامی طور پر گزارنی ہوگی۔ وہ زندگی یا تو بہت خوش گوار ہے یا بے حد دردناک۔ دنیا کے لوگ زندگی میں ہائیڈر دجن بھر کے خطرہ سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ مگر موت کے بعد ہر شخص کے سامنے جنم کے عذاب کا خطرہ ہو گا جو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اس خطرہ سے آپ ہی دنیا کو باخبر کر سکتے ہیں۔ سوچئے کہ اس سمجھاری ذمہ داری کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں۔ دنیا نادان ہے اور آپ علم رکھتے ہیں۔ دنیا سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کی یا نہیں۔ مگر آپ سے اس کے سوایہ سوال بھی ہو گا کہ ہٹھلے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لئے تمہرے کیا کیا۔ دنیا کو صرف اپنا بھروسہ دینا ہو گا اور آپ کو اپنا بھی اور دنیا دا لوں کا بھی۔ عظیم ذمہ داری جو آپ کے حصہ میں آئی ہے، اس کا خیال بھی آپ کو بے چین کر دینے کے لئے کافی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ آپ کی راتوں کی نیندا اور دن کا سکون حرام ہو جائے۔ دنیا کی لذتوں اور اساثتوں میں آپ کے لئے کوئی دل پیشی باتی نہ ہے۔ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ بھی کچھ ضروریات رکھتے ہیں آپ کو صرف یہ یاد رہے کہ دنیا کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو پہنچنے گھروں، اپنی جانداروں اور اپنے اہل دعیا میں سے زیادہ دنیا کی اصلاح کی نکر ہو۔ آپ کی زبانوں پر ہر وقت اسی کا پڑھا جاؤ کیوں کہ اس کے سوا جو کچھ ہے اس کا چرچا کرنے والے دنیا میں بہت لوگ ہیں آپ ان میں مشغول ہو گرا پنا دقت ضائع کریں گے اور دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ کے قدم رکت کریں تو اسی راہ میں حرکت کریں کیوں کہ اس کے سوا جتنے راستے ہیں وہ سب یا تو غلط ہیں یا بے فائدہ۔ آپ کے اوقات یا تو زندگی کی ناگزیر ضروریات فراہم کرنے میں صرف ہوں یا پھر اسی دعوتی مقصد کے لئے جدوجہد کرنے میں۔ آپ کی خواہشات، آپ کی تمناؤں اور آپ کی دل چسپیوں کا کوئی دوسرا مرتع باتی نہ رہے۔ آپ ہر طرف سے کٹ کر صرف اسی ایک کام کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ کی جانوں اور مالوں پر صرف اسی چیز کا حق ہو۔ فرضن آپ اور جو کچھ آپ کے پاس ہے ان سب پر سب سے پہلے اسلامی دعوت کا حق ہو اور اس کے بعد

دوسری چزوں کا۔ فائر بیگیہ کی طرح آپ چوبیں لکھنے اپنے آپ کو ڈیولی پر سمجھیں اور کمی، اس سے غافل نہ ہوں۔ بے شمار انسانوں کی اس بھیڑیں چند انسان جو حق کا کام کرنے کے لئے اٹھتے ہیں، مگر وہ لوگ بھی اپنی زندگیاں اس کے لئے وقف نہ کریں تو پھر دوسرے لوگ کہاں سے آئیں گے۔

یہاں کروڑوں انسان ہیں جو اس لئے صحیح کرتے ہیں کہ دن کے اجاتے میں اپنی روزی کلکیں اور اس لئے شام کرتے ہیں کہ دن بھر کی تکان دور کے اگلے روز بھرا سی مشغلمیں جتنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ کمیں سفر بھی کرتے ہیں تو وہ سفر یا تفریح کے لئے ہوتا ہے یا رفندگار کے لئے۔ اس بھیڑ کے اندر دوسرے تمام لوگوں کے خلاف آپ نے ایک نئے ناستہ پر چلنے کا رادہ کیا ہے۔ آپ دنیا کے بجائے آخرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس راہ کا تناخنا ہے کہ آپ کی راتیں اس غم میں بسر ہوں کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس پر شیطان اور طاغوت کا غلبہ ہے۔ آپ کی صمیحیں اس پار کے ساتھ طلوع ہوں کہ خدا یا جس طرح سورج نے خشکی اور تری کو روشن کیا ہے اسی طرح تو انسانی زندگیوں کو بھی ہدایت سے منور کر دے۔ آپ نکلیں تو خدا کی راہ میں نکلیں اور نکھریں تو خدا کے لئے نکھریں۔ آپ جنت کے امیدوار ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جنت کس طرح ملتی ہے۔ جنت میں وہ قدم نہیں جاتیں گے تو خدا کی راہ میں اگر داؤ دن ہوئے ہوں۔ جنت کو وہ آنکھ نہیں دیکھیں جو خدا کے خون سے تر نہ ہوئی تھی۔ جنت میں وہ دجوہ نہیں جائے گا جس نے آخرت کے لئے دنیا کی مصیبتوں برداشت نہ کی ہوں پھر سوچئے کہ آپ کہاں تک ان شرطوں کو پورا کر رہے ہیں۔

ہم اس وقت ایک ہوناک طوفان کے سرے پر کھڑے ہیں۔ جس نے چند ہفتوں کے اندر اس مسئلے کی تفسیریا پانچ سو سیتیوں کو دیران کر دیا ہے اور ہزاروں انسانوں کو متاثر کیا ہے۔ شہر کا یہ حال تھا کہ دریا کے پانی نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا جس کے درمیان وہ بالکل جزیرہ بن گیا تھا۔ کن رے کے باشندے اپنے گھروں کو اس طرح خالی کر رہے تھے کہ ان کے گھروں کی گرتی ہوئی دیواریں ان کو رخصت کر رہی تھیں۔ اس سیلاپ نے پچھلے سوریس کے تام ریکارڈ ترددے۔ شہر کے گرد ایک بہت بڑا باندھ ہے جو ۱۸۷۸ء کے تاریخی سیلاپ کے بعد بنایا گیا تھا۔ اسی باندھ سے اس وقت شہر کی قسمت بندھی ہوئی تھی جس کے دوسری طرف شہر کی عام سطح سے کمی گز اونچا پانی لٹکا ہوا تھا۔ ہر گھر میں اسی کا چرچا تھا اور ہر شخص کی زبان پر اسی کا تذہ تھا۔ یہاں تک کہ ۲۰۷۲ء اور ۱۹۵۵ء کی درمیانی رات کو کلکٹر کی طرف سے بذریعہ لاڈ اسپیکر یہ اعلان ہوا کہ:

”اللہ تعالیٰ کا باندھ ابھی ٹوٹا چاہتا ہے آپ لوگ اپنی جانوں کو بجا نے کئے اونچی چکیوں پر چلے جائیں یہ اس وقت رات کے ایک بجے تھے۔ سارا شہر جاگ اٹھا اور جیسے سنی پھیل گئی۔ لوگ اپنے کچے اور بچے گھروں سے نکل کر باندھ کی طرف دوڑے اور سیکڑوں آدمیوں نے چھادر اور بوریا لے کر اس جگہ میڈیا نیشنل شرکت کو دی جیاں سے باندھ پھٹ کیا تھا۔ ایسے لوگ جنہوں نے شاید زمین پر بھی ننگے پاؤں قدم بھی نہ رکھا ہو گا۔ وہ سروں پر سٹی کاٹو کر لے کر ڈھونے سے تھا۔

۷ اشارہ ہے اس تاریخی سیلاپ کی طرف جس نے ۱۹۵۵ء کی برسات میں مشرقی ہندوستان کو نبردست نقصان پہنچایا۔

درجنوں پڑھنے کی روشی میں ساری رات کام ہوا اور دوسرا دن دوپہر تک ہوتا رہا۔ بالآخر انہیں کہہ دیا کہ اب باندھ قابو سے باہر جا چکا ہے۔ اب بجے دن کے بعد باندھ ٹوٹ گیا اور دم کے دم میں پانی سڑکوں پر بیٹھ لگا۔ سارے شہر میں کہرام پڑ گیا۔ دکانیں بند ہو گئیں۔ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور پانی ان کے پیچے اس طرح دوڑ رہا تھا کوئی ان کا بچھپا کر رہا ہے۔ زندگی کے مسائل سخت کر بس سیالاب کے گرد جمع ہو گئے اور چند دنوں کے لئے شہر میں قیامت کا منظر دکھائی دینے لگا۔

اس سیالاب میں ہمارے لئے بہت کی ضرورتیں اور عبرتیں ہیں مگر میں اس وقت جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک اس سے بھی زیادہ ہونا کہ طوفان نہ صرف ایک صلح کو بلکہ ساری دنیا کو گھیرتے ہوئے ہے اور تمام انسانوں کی زندگی اس کی زندگی سے۔ سیالاب کا خطرہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کو ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ان کی زندگی کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہے مگر حق کو انتیار نہ کر لے کاجو خطرہ ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کو کیا نقصان پہنچنے والا ہے۔ سیالاب کے خطرہ سے آگاہ کرنے کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ لا دا سپرک کے ذریعہ ایک اعلان کر دیا جائے۔ مگر جب خطرہ سے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سمجھنا بھی دنیا کے لئے مشکل ہے۔ آئنے والوں کا نظریہ اضافت اور ایڈم کی حقیقت لوگوں کو سمجھانی جاسکتی ہے مگر یہ سمجھانا مشکل ہے کہ حق سے بے نیاز ہو کر وہ ایک ایسے جو لاکھی پہاڑ کے دہانہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی کی بھی وقت پھٹ کر ان کا خاتمہ کر سکتا ہے۔

ہمارا کام محض اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اپنے پیغام کو کسی نہ کسی طرح لوگوں کے کان میں ڈال دیں بلکہ ہمیں اس کو مدل بنا کر ان کے سامنے رکھنا ہو گا اور اس کے لئے لمبی مدت تک زبردست جدوجہد کرنی ہو گی۔ ایک ایسی چیز جو وقت کے پیمانوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ بے وزن ہے اس کو اس انداز میں پیش کرنا ہو گا کہ وہ دوسرا تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ باوزن نظر آنے لگے یہاں تک کہ لوگ اس پر سوچنے کے لئے بجورہ ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں کہ اس ایک راستے کے سوا تمام راستے باطل خلط اور بتاہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس کے لئے ہم اپنے دماغ اور اپنے جسم کی ساری قوتوں صرف کرنی ہوں گی۔ اپنے اوقات اور اپنی کمایوں کا سب سے بڑا حصہ اس مقصد غظیم کی نذر کرنا ہو گا اور یہ سب کچھ کسی ایک رات اور کسی ایک دن کے لئے نہیں بلکہ سالہا سال کے لئے اور ساری عمر کے لئے کرنا ہو گا۔ ہمیں اس مقصد کے لئے قربان ہو جانا پڑے گا اور اپنی زندگیوں کو اس راہ میں کھپا دینا ہو گا۔ جبکی یہ ممکن ہے کہ لوگ ہمارے پیغام سے واقعہ بلوں اور آنے والے خطرہ سے آگاہ ہو کر اس سے بچنے کا سامان کر سکیں۔ پھر کون ہے جو حق کے لئے قربان ہوتا ہے۔ کون ہے جو دنیا کو بتایا سے بچانے کے لئے جان کی بازی لگا سکتا ہے۔ کون ہے جو اس کو چھوڑ سکتا ہے جو کہ اس کی نظریوں کے سامنے ہے تاکہ وہ اس کو پاسکے جو کہ اس کی نظریوں سے ادھیکل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا خو صد کر سکیں کیوں کہ وہی انسانیت کا اصل جوہر ہیں اور وہی ہیں جو زندگی کی اصل کامیابی کے حق دار ہوں گے۔

(مطبوعہ سردار ذہ دعوت ۵ ستمبر ۱۹۵۵)

تقریب ماہانہ اجتماع جماعت اسلامی، بمقام سید حاصل سلطان پور (اعظم گڑھ) ۵ اگست ۱۹۵۵

دفتر کے صحیح میں دوڑنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا، دیکھا تو ہاگر ہاتھ میں اخبار لئے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ یہ اس کا روشنانہ کام مول ہے۔ صبح کا اخبار اول ترین وقت میں تمام خریداروں کے پاس پہنچانے کا اس کو اتنا خیال ہے کہ وہ دوڑتا ہوا چلتا ہے۔ اور اگر اخبار لینے کے بعد اس سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ تمہر کر اس کا جواب نہیں دے گا بلکہ واپس بھاگتے ہوئے کہتا چلا جائے گا۔ وہ دوڑ رہا ہے تاکہ وہ بھاگتے ہوئے وقت کو پکڑ لے، تاکہ وہ وقت کے سچے نہ رہ جائے۔ یہ دنیا کے لئے انسان کی دوڑ دھوپ کی ایک مثال ہے جس کو آپ اپنے قریب ترین دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کا حال یہ ہو کہ آپ صبح کی چائے "میں طویل وقت صرف کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھتے تھفتے باشیں کرتے ہوئے نہایت اطمینان کے ساتھ اخبار کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ آخرت کے اقرار میں اتنے سمجھدہ بھی نہیں ہیں جتنا وہ شخص اپنے پیشے میں سمجھدہ ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے ذائقی ہیں، لیکن اگر صورت حال یہ ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا مسلمان ہونا آپ کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ آپ کی اسلامی دعوت محفوظ اس سے ایک رفاقتی داشتگی کا تجھہ ہے یا زیادہ وہ ایک ذہنی موجودگی سے اگر ایسا ہو تو آپ آخرت کے لئے اس سے زیادہ بیتاب ہوتے جتنا ایک دنیا پرست دنیوی فائدہ دل کے لئے بے تاب ہوتا ہے۔ آخرت کی طلب میں آپ اس سے زیادہ تیز دوڑنے کی کوشش کرتے جتنا کوئی شخص اپنی ملازمت اور کاردار کے لئے دوڑتا ہے، اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں آپ اس سے زیادہ مستعد ہوتے جتنا کہ ایک اخبار بھی پہنچا دالا اپنے کام میں نظر آتا ہے۔

اسلام آدمی کو زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کے لئے بلا تا ہے۔ جس کے دل میں یہ بات اتر گئی ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص غیر متعلق کام میں یا لکھنے کے مقاصد میں اپنا وقت صنائع کرے، اسلام ہم کو موجودہ زندگی کی غفلتوں کے بد لے بے پناہ عذاب سے ڈرا تا ہے۔ جو شخص فی الواقع اس خبر پر ایمان لا یا ہو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو بے فکری کے ساتھ تھبہ لگاتا ہو پائیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک عظیم خدا ہے جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو مانتا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک لمحے کے لئے بھی ایسے مشاغل میں مصروف ہونا پسند کرے جس کی خدائے ذوالجلال کے تزدیک کوئی قیمت نہ ہو، اسلام کہتا ہے کہ تمہاری زندگی بالکل غیر یقینی ہے، کسی بھی وقت ہوت کے فرشتے تمہاری گرفتاری کے لئے پہنچ سکتے ہیں۔ جو شخص حقیقی معنوں میں اس انتہائی نازک صورت حال کا احساس رکھتا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ روزا نہ اپنے اوقات کا ایک حصہ ایسے مشاغل میں صرف کرتا رہے جس کا طلب آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص خدا سے ڈر رہا ہو اس کے لئے ممکن نہیں ہے کہ ایک کام کو جھینوں اور سالوں کرتا رہے اور اس کو احساس نہ ہو کہ وہ ایک غلطی کو دہرا رہا ہے۔ "کیا یہی وہ تصویر ہیں ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد بنتی ہیں" یہ فقرہ اکثر ایک دردناک آؤ کے ساتھ میری زبان سے اس وقت نکل جاتا ہے جب میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ انسان کے لئے اس کے مواثی مفادات

آخر دلی تقاضوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا کی مرضی کے لئے سرگرم ہونے سے زیادہ اس کو یہ بات مجبوب ہے کہ وہ اپنے ذوق کی تسلیم اور اپنی عادتوں کی تسلیم میں لگا رہے۔ وہ اپنی زندگی کے مقررہ نقشہ کو نہیں بدیل سکتا، خواہ اس کی وجہ سے اس کی عبادتوں ناقص ہو جائیں، خواہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک ٹھیک انجام نہ دے سکے، خواہ اس کو بالآخر اپنی پسی اور ناکر وگی کو چھپانے کے لئے جھوٹے غدرات کا سہارا لینا پڑے۔

یہ شکایت مجھے صرف ان لوگوں سے نہیں ہے جو مسلمانہ ماحول میں پروارش پا کر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو "دیندار" کے باتے ہیں۔ جن کی طرف اسلامی مسائل معلوم کرنے کے لئے رجوع کیا جاتا ہے۔ ان کا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے چند دن پہلے میں ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک پر جوش آہاز میرے کان میں آئی۔ "ہرآدمی کی زبردست خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو چھلتا پھوتا دیکھے اس سے دل کو بڑی تسلیم ہوتی ہے" دیکھا تو ایک بزرگ ایک دکان میں بیٹھے تقریر کر رہے تھے۔ چھرے پر فاڑھی ان کے دین دار ہونے کی علمت تھی اور نبان اور وضع قطع بتاری ہی تھی کہ یقیناً کوئی عالم ہوں گے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی ناجائز خواہش ہے۔ مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر یہ تناولیت زیاد ہے کہ وہ اپنی اولاد کو چھلتا پھوتا دیکھیں مگر اسلام کو چھلتا پھوتا دیکھنے کی ترپ ان میں باقی نہیں ہے، تو یہ جائز خواہش کی مجھے ایک جرم معلوم ہونے لگتی ہے۔ ایک بزرگ کو میں بنے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ ایک نوجوان کو اس بات پر تنبیہ کر رہے تھے کہ وہ نماز کے بعد دعا کے لئے نہیں ٹھہرتا بلکہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ بے شک یہ نوجوان کی غلطی تھی۔ مگر میں جانتا ہوں کہ خود ان بزرگ کا یہ حال ہے کہ صبح کی اور در پرہ کی نیمنہ اکثر ایکھیں خوار قہر کی نمازوں میں وقت پر مسجد پہنچنے نہیں دیتی۔ شام کی لفڑتگوں میں وہ کبھی کبھی اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ مسجد اس وقت پہنچتے ہیں جب امام ایک رکعت پوری کر جپا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے کہتے "علم دین" میں گے جن کے سامنے اگر دلکش متكلم امامہ یہل عون افی الحنیر کا ترجمہ "تم میں سے ایک گردہ ایسا ہو ناجائز ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاۓ"۔ کر دیا جائے تو وہ اس پر دو گھنٹے بحث کریں گے کہ یہاں متن "تبیعیضیہ" نہیں بلکہ "بیانیہ" ہے۔ یعنی آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ "تم کو ایسا گردہ بننا چاہئے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاۓ"۔ (ذی یہ کہ تم میں سے ---) مگر ان حضرات کے ساتھ آپ جہینوں اور سالوں زندگی گزاریں، آپ یہ نہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر فی الواقع دعوت ای اغیر کی کوئی واقعی ترلب پانی جاتی ہے۔ وہ آیت میں عموم ثابت کرنے کے لئے قابلیت صرف کریں گے۔ مگر اس عموم کی پانی ذات تک پہنچانے کی ضرورت نہیں کبھیں گے۔ صلوٰۃ و سطی کا ترجمہ اگر "یق" کی نماز" یا "عصر کی نماز" کر دیجئے تو وہ آپ کے اپر جہات کا فتویٰ صادر کر دیں گے۔ وہ اصرار کریں گے کہ قرآن میں چو صلوٰۃ و سطی کا لفظ آیا ہے اس سے مراد "بہترین نماز" ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سے مراد کوئی ایک نمازوں نہیں بلکہ ساری نمازوں ہیں۔ مگر ان کی اپنی نمازوں کو دیکھئے تو آپ یہ نہ پائیں گے کہ وہ اپنی نمازوں کو "بہتر" بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسروں پر تبلیغ کرتے ہوئے وہ نہایت جوش کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کریں گے کہ:

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر فرزوہ پدر کے لئے نکلے، دوسرا طرف مشکین کا لشکر تھا۔ آپ نے فرمایا،

بڑھوا یک ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین دامان کے برابر ہے۔ ایک انصاری عبیرون حام نے یہ سناتوں کی زبان سے بخ نجع کے الفاظ نکل گئے یعنی خوب! آپ نے فرمایا، تم نے بخ نجع کیوں کہا۔ انہوں نے جواب دیا۔ خدا کی قسم صرف اس لئے کہ شاید میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں تم انھیں میں سے ہو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے بیٹن میں سے کچھ جھوریں نکالیں اور اسے کھانے لگے۔ پھر بولے ان کچھوروں کو کھانے کے لئے میں کب تک زندہ رہوں گا۔ اپنہا لخیثۃ طویلۃ یہ تو طریقی بھی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بقیہ کچھوریں ایک طرف ڈال دیں اور جنگ میں کو د پڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے ॥ (مسلم)

مگر خود ان مبلغین کا کیا حال ہے۔ مذکورہ صحابی نے تو خدا تک پہنچنے کے شوق میں اپنی داتی خواراں چھینک دی تھی مگر یہ حضرات اپنے ذوق اور اپنی عادتوں کو بھی خدا کی خاطر چھینکنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ پدر کے میدان میں اسلام اور کفر کا جو معرکہ ہر اتحاد و آج ہرگلی اور ہر شرک پر پوری اشدت کے ساتھ جاری ہے مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وقت کے اس غزوے میں شرکت کے لئے اپنے موجودہ مفاد کو تزک کرنا تو درکار، مستقبل کی تناول اور اپنی آنے والی پیشوں کے مفاد کو بھی خدا کے دین کے لئے خطرے میں ڈالنا وہ گوارا نہیں کر سکتے۔

میں اکثر سوچتا ہوں کہ اسلام کے دعے کے ساتھ اتنے بڑے تضاد کو لوگ کس طرح اپنے اندر جمع کئے ہوئے ہیں۔ ہر بار مجھے یہی جواب ملا کہ دراصل "تاویل" کے فتنے نے لوگوں کو اس تضاد میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر آدمی نے اپنے طرزِ عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کچھ خوب صورت جوابات تراش رکھے ہیں اور ضرورت کے وقت وہ فوراً انھیں پیش کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کو میں نے ایک بار دعوت دیں کی جدو جد میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ انہوں نے فوراً اپنے پیشے کی اہمیت پر تقریر شروع کر دی۔ ان کے نزدیک ان کا پیشہ خدمت خلق کا ایک زبردست کام ہے جس کو وہ رات دن کی محنت سے انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بعض نیکین مریضوں کا ذکر کیا جو ان کے زیر علاج تھے۔ انہوں نے کہا " بتائیے میں انھیں چھوڑ کر کیسے کہیں جاسکتا ہوں۔ میرا ایسا اقدام انسانیت دوستی ہوگی یا انسانیت دشمنی" بطف ہر یہ بہت معقول جواب ہے لیکن اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اکثر ڈاکٹروں کی "انسانیت دوستی" ہمیشہ ان مریضوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے جو اس کے زیر علاج ہوں اور ان میں بھی سب سے زیادہ اس کی توجہ کے سختی وہ مریض ہوتے ہیں جو زیادہ "قیمتی گاہک" ہوں تو آپ بھی جائیں گے کہ اس خدمت خلق کی حقیقت کیا ہے۔

اسی طرح ہر شخص کے پاس اپنے طرزِ عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ایک جواب موجود ہے۔ کوئی لوگوں کی ناگردنگی کو اس بات کے لئے کافی سمجھے ہوئے ہے کہ وہ خود بھی کوئی کام نہ کرے، کوئی دوسروں کے غلط خیالات کو اپنے لئے رکاوٹ سمجھتا ہے کوئی دقوں اور پابندیوں کی ایک فہرست لئے بیٹھا ہے، کسی کو ایک ایسا فقہی اور قانونی پیمانہ مل گیا ہے جس سے ناپسے میں اس کا جامہ بالکل درست اترتا ہے، کسی نے احادیث کے ذخیرے میں سے اپنے مناسب حال چند موزوں صدیقوں کو چھانٹ لیا ہے جو اس کے طرزِ عمل کو صحیح ترین ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں۔ اسی طرح ہر شخص کے پاس اپنے غیر اسلامی روایتی کی ایک اسلامی توجیہ اور اپنی آخرت فراموش زندگی کی ایک خالص دینی تاویل موجود ہے۔ اور اگر آپ ان تاویلات کی حقیقت کھوں دیں تو وجودہ

دور میں شیطان نے چندالیسے الفاظ جھیا کر دئے ہیں جن کے ذریعہ کسی بھی صبح ترن تنقید کو نہایت آسانی سے روکیا جاسکتا ہے — ”یہ شدت پسندی ہے۔“ یہ نہایا انتہا پسندانہ ذوق ہے۔ ”تم کیک رُخے انہماز میں سوچتے ہوئے“ ”تم اعدال کے راستے سے ہٹ کے ہوئے“ دغیرہ دغیرہ۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیونکہ خدا کے رسول پہلے ہی اعلان فرمائے ہیں کہ **آلِ اللہِ عَلَيْنَا مُسْتَبْدِلٌ**!

مگر یاد رکھتے آج آپ ایک ناصح کو ان جوابات سے خاموش کر سکتے ہیں۔ مگر خدا کے یہاں اس قسم کے جوابات ہرگز کافی نہ ہوں گے۔ وہاں تو آپ کی پوری زندگی کا بینہ ادھیر کر رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم خود دیکھ لو کہ دنیا کی زندگی میں تم جن مشافل میں مصروف تھے ان کے سچے کیا کیا محکمات کام کر رہے تھے۔

میرے ایک ساتھی نے ایک مرتبہ بہت عده بات کی۔ ”آخرت میں خدا کا انعام اسی کو ملے گا جس نے دنیا میں خدا کے انعام کو پالیا ہو۔“ اس بات پر غور کیجئے تو اس میں نسبیت کے بہت سے پلوچے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، آپ دین ترقی کے علم بردار ہیں، یہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ آپ خدا کی جنت کے امیدوار ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انعام ”جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا“ وہ محض دعویٰ اور خوش گمانیوں کے ذریعہ تو کسی کو تھیں مل سکتا۔ (اغف) صرف اس کے لئے ہے جس نے دنیا میں اپنی آخرت طلبی کو نمایاں طور پر ثابت کر دیا ہو، جس نے اپنے مسلسل روایتے سے یہ دکھادیا ہو کہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں وہ اس کے پانے کا استحقاق رکھتا ہے۔ جب دوسرے لوگ دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے تو وہ خدا کے انعام کے تصور میں اتنا محظا کہ اسے دنیا کی لذتیں بھول گئیں۔ جب دوسرے لوگ اپنے ذوق کو تسلیکیں دینے میں مصروف تھے تو وہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے تڑپ رہا تھا، جب دوسرے لوگ سوتے تھے تو وہ جاؤسا تھا، جب دوسرے آرام کرتے تھے تو وہ تکلیف اٹھانا تھا، جب دوسرے لوگ ہنہی اور تفریغ میں دل بہلا رہے تھے تو وہ آنسو بیار ہوتا تھا۔ خصوصی کہ جب دوسرے لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گم کئے ہوئے تھے تو وہ آخرت کی زندگی کے لئے اپنا ایک ایک لمحہ صرف کر رہا تھا۔

جنت کا سخت ہونا دوسرے لفظوں میں کسی کا ممتاز مقام حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف وہی شخص کسی ممتاز مقام کو پتا ہے جس نے اس کے لئے بے پناہ جدوجہد کی ہو۔ شہیک اسی طرح آخرت کے درجات عالیہ بھی دی لوگ پائیں گے جھوپوں نے اپنے آپ کو اس کے لئے کھپار دیا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنی سلطی زندگی کے نتیجہ میں وہ آخرت کے انعامات کو حاصل کرے گا تو وہ محض خوش فہمی ہے۔ شہیک دیسی ہی خوش فہمی جیسے کوئی شخص سمجھے گے کہ وہ بستر پر لیڈ لیٹے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جب کہ دنیا اسے ”فاختی یورست“ کے نام سے پکارے اور اس کو وہ اعزازات نصیب ہوں جو میری اور تین زنگ کو لمبی جدوجہد کے بعد حاصل ہوئے۔

۱۸۳۲ء میں انگلینڈ کے دیہات میں ایک رڑکا پیدا ہوا۔ پیدائش کے وقت وہ اتنا کمزور تھا کہ دائیوں نے اس کی زندگی کی طرف سے مایوسی ناہر کی۔ اس کا کمزور سرخافت کی خاطر تبرے کی پیٹ سے پیٹ دیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ بڑا ہو کر ہائی اسکول پہنچا تو وہ اپنے ساتھیوں میں سب سے سچے نخا۔ مگر یہی کمزور رڑکا جب پچاسی سال کی عمر میں مراتودہ نیشن کے

پر عظمت نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ نہ صرف انگلینڈ میں اس کو بلند ترین اعزازات حاصل ہوئے بلکہ ساری دنیا میں اپنی ذہنی عظمت کا اس نے ایسا سکہ بٹھایا کہ اس کے مردنے کے سو سال بعد جب دور بینی مطالعہ میں سائنس دانوں نے دیکھا کہ سیارہ یورپ نے نیوٹن کے قانون تجاذب کے بتائے ہوئے راستے سے کچھ بٹھا ہوا ہے تو انہوں نے نیوٹن کے اصول کی فلسفی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی اور سیارہ ہونا چاہئے جس کی کشش سے اس کی رفتار میں یہ ذریعہ پیدا ہوا ہے۔

نیوٹن کو عظمت کیوں کر حاصل ہوئی اس کا جواب خود اس کی زبان سے سنئے۔ ایک مرتبہ اس کے کارناموں کی تعریف کی گئی تو اس نے کہا:

"I had no special sagacity --- only the power of patient thought" یعنی میرے اندر کوئی خصوصی قابلیت نہیں ہے۔ مجھے جو پچھلادہ صرف اس وجہ سے ملا کہ میں نے کائنات کو سمجھنے کے لئے انھیں جدوجہ سے کام لیا ہے۔ اپنی مشہور کتاب (Principia) کی تیاری کے دوران میں اٹھا رہ چیزیں تک اس کا یہ حال تھا کہ وہ گھنٹوں بے حس در حرکت پڑا سوچتا رہتا۔ اس کے بعد یا کیا اپنی ڈسک پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور گھنٹوں مسلسل نکھستا رہتا۔ اس کو اتنا بھی ہوش نہیں رہتا تھا کہ قریب کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ جائے۔ اس کے سکریٹری کی رپورٹ ہے کہ اس دوران میں بہت کم ایسا ہوا کہ وہ دو بجے سے پہلے بست پر گیا ہو اور بعض اوقات تو پانچ اور پہنچ بجاتے تھے۔ کھانا بھی وہ اکثر ہمبوں جاتا تھا۔ اس کی زندگی کی ضروریات بہت حدود تھیں۔ ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کہ تم سگرست کیوں نہیں پتے، اس نے جواب دیا:

"Because I do not want to acquire any new necessities".

یعنی میں سگرست اس نے نہیں پتی کہ اس کی وجہ سے میری ضروریات زندگی میں خواہ ایک نئی ضرورت کا اضافہ ہو جائے گا۔ ولیم ہرشل William Harschell کے علم کو بہت آگے بڑھایا۔ اس کا حال یہ تھا کہ معاشی تنقیٰ کی وجہ سے اسکوں کے بعد وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور ایک ملازمت کر دی۔ لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے انہیں سال کی عمر میں یہ ملازمت بھی چھوٹلی پڑی۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاندانی پیشے کو اختیار کیا اور والکن بجانے لگا سائی دوران میں اس کو فلکیات کے موضوع پر ایک کتاب لی۔ اس کتاب کو اس نے بہت فور سے پڑھا۔ اس کے بعد ہرشل کو ستاروں کے مطالعہ سے گھری دل جیسی پیدا ہو گئی۔ اس کا یہ شوق اتنا بڑا کہ جبکہ بھی رات کے وقت جب اس کی ٹولی ساز و نغمہ میں صرف دھونکہ کر تھوڑی دیر کے لئے باہر نکل جاتا تاکہ آسمان پر جگھاتے ہوئے ستاروں کی ایک جملک دیکھ آئے۔

ستاروں کے مطالعہ کے لئے دور بین ضروری تھی۔ مگر یہ اٹھا رہوں صدی کا زمانہ تھا جب کہ دور بین ابھی جلد ہی ایجاد ہوئی تھی اور نہ صرف یہ کہ ناقص تھی بلکہ اس کا مذا بھی آسان نہیں تھا۔ ہرشل نے خود اپنی دور بین بنا نہ کافی صد کیا۔ اس کے متعلق فنی دانیشی حاصل کرنے کے لئے اس نے ریاضی پڑھنی شروع کی اور لمبی محنت کے بعد خود اپنے ہاتھ سے دور بین

تیار کی۔ ظاہر ہے کہ اس کی پہلی دوریں بھی بہت ناقص تھی۔ مگر وہ محنت نہ ادا۔ دوریں کو ترقی دینے اور اس کو بہتر بنانے میں اس کا انہاں اتنا بڑھا کہ اس کا پورا گھر دوریں کا ایک کار خانہ بن گیا۔ اس زمانے میں ہرشل کی مشغولیت کا یہ حال تھا کہ کھانے کے لئے بھی اپنی درکشپ سے نہیں تکلتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بہن کو اکثر اس طرح اسے کھانے کے لئے آمادہ کرنا پڑتا تھا وہ اپنے کام میں لگا رہتا اور بہن اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی اس کے منہ میں نقید ڈالتی جاتی۔ صاف راقوں میں جب کہ آسمان پر بادل نہیں ہوتے تھے، بہت کم ایسا ہوتا کہ ہرشل بستر کے اوپر نظر آئے۔ ایسی راتوں کا بہترین مصرف اس کے نزدیک یہ تھا کہ اس کو ستاروں کا مشاہدہ کرنے میں بس رکرے۔ اس کی انھیں کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اس کو تاریخ میں وہ مقام حاصل ہوا جس کو ایک مصنف نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

“...he had looked farther into space  
than any other eye had yet seen”

یعنی اس نے کائنات میں اتنی دور تک دیکھا جتنا اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔

نومبر ۱۸۴۶ء کی ایک تاریخ کو جب ایک یورپیں ڈاکٹر کے کرے میں اس کا ملازم داخل ہوا تو ڈاکٹر اور اس کے دوساری اپنی کرسیوں سے گزر فرش پر اندھے منہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ لازم نے سمجھا کہ شاید ان لوگوں نے کوئی تیر قسم کی شراب پی لی ہے۔ اس نے ان کے کپڑے درست کئے اور غاموشی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ مگر حقیقت پکھا اور تھی۔ یہ درصل جیز سکپسون اور اس کے دوست تھے جھنوں نے پہلی بار کلور و فارم کے اثرات کا تجربہ کرنے کے لئے اس کو سامن کے ذریعہ اپنے اندر داخل کر دیا تھا۔ سکپسون ایک دیہاتی نابالائی کے سات لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ چار سال کی عمر میں اس نے دیہات کے اسکوں میں تعلیم شروع کی اور اس میں اتنی دل حیسی اور توجہ دکھائی کہ اس کا باپ اور چھوپھانی اس پر راضی ہو گئے کہ نہایت ضروری مصارف پر تقاضت کر کے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لئے شہر چھینیں۔ اس طرح وہ اڈنبرا یونیورسٹی پہنچا۔ اسی نابالائی کے لڑکے کے سراسی بات کا سہرا ہے کہ اس نے آپریشن کے موئیں رکلور و فارم کا استعمال دریافت کر کے انسانیت کو ایک طویل اور جانکاہ مصیبت سے بخات دی۔ اس نے انسان کو وہ چیز دی جس کو ڈاکٹر جان براؤن نے ان لفظوں میں ادا کیا ہے:

“...one of God's best gifts to his suffering children.”

یعنی دلکی انسانوں کے نام خدا کے تھنوں میں سے ایک بہترین تحفہ — مگر سکپسون یہ تاریخی کام صرف اس وقت کی مکملاجیک اس کی تحقیق میں اس نے اپنے آپ کو پوری طرح لگا دیا اور اس کے لئے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی گزی نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں میں سے صرف چند کا ذکر ہے جھنوں نے دنیا میں عزت کا مقام حاصل کیا۔ آپ اس طرح کے بہت سے واقعات کو کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنت دنیوی میں صرف وہ لوگ داخل ہو سکے جھنوں نے بے پناہ مشقت اٹھائی۔ جھنوں نے اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کے سچے جھونک دیا۔ دنیا اپنی پشت پر چلنے والے کروں اور ایلوں انسانوں میں سے صرف ان تھوڑے سے لوگوں کو عزت اور سر بلندی کا مقام دینے کے لئے منتخب کرتی ہے جو اس کے لئے اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، جو اپنا سب کچھ اس کے خالے کر دیتے ہیں پھر خدا کی جنت جو اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کس قدر

خام خیالی ہو گی اگر کوئی شخص سمجھے کے محض سلطنتی قسم کے عمل کے ذریعہ وہ اسے حاصل کر لے جائے :  
 آمُّ حَسِيبُمْ دَأَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتُكُمْ مُّتَّقِينَ  
 الَّذِينَ يُنْهَا نَحْنُ أَمِنَ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِمُونَ إِلَيْا سَاءَ فَالظَّرَاءُ  
 وَذَلِكُنَّ لَوْا خَلِيَّ نَيْوَدَ الرَّسُولُ وَلِلَّذِينَ أَمْنُوا  
 مَعَهُمْ مَثْيَى دَفَّةٍ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ شَيْءٌ ۝  
 بقرہ ۲۱۳

آخیر میں آپ کو میں ایک واقعہ سننا چاہتا ہوں جو چھپے دس سال سے میری یادداشت کا بہترین حصہ رہا ہے یہ  
 ایک انگریز مسٹر آرنلڈ کا داقہ ہے جو علی گڑھ میں فلسفہ کے پروفیسر تھے۔ ۱۸۹۰ء میں جب مولانا شبلی نے قسطنطینیہ کا  
 سفر کیا تو جہاز میں پورٹ سعید تک مسٹر آرنلڈ کا بھی ساتھ رہا۔ مولانا شبلی مکھتے ہیں :

” ارمی کی صبح کو میں سوتے سے اٹھا تو ایک ہم سٹرنے کیا کہ جہاز کا الجن ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا تو داقی پکتان  
 اور جہاز کے ملازم گھبراے پھرتے تھے اور اس کی درستی کی تدبیریں کر رہے تھے۔ الجن بالکل بے کار ہو گیا تھا اور جہاز  
 نہایت آہستہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا۔ میں سخت گھبرا�ا اور نہایت ناگوار خیالات دل میں آئے گے۔ اس  
 بڑھا کر میں اور کیا کر سکتا تھا۔ درڑا ہوا مسٹر آرنلڈ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت نہایت المیان کے ساتھ کتاب کا  
 مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو خبر بھی ہے۔ بولے کہ ہاں الجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کچھ اضطراب  
 نہیں۔ بھلاکی کتاب دیکھنے کا موقع ہے۔ فرمایا کہ جہاز کو اگر بر بادی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور کچھی قدر کے قابل ہے  
 اور ایسے قابل قدر وقت کو راستا کرنا بالکل بے عقلی ہے ॥“ سفر نامہ روم و مصر و شام صفحہ ۱۲  
 سمندر کی ہڑوں کے درمیان جہاز کی یہ غیر لقینی حالت آٹھ گھنٹے قائم رہی۔ آٹھ گھنٹے کا یہ وقت مسٹر آرنلڈ کے لئے جو  
 حیثیت رکھتا تھا مون کے لئے دی ہی حیثیت اس کی پوری زندگی کی ہے۔ آپ ہر وقت اس خطرے میں بدلائیں کہ اچانک آپ  
 کی موت آجائے۔ ہر لمحہ آپ کے لئے زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ اگر آدمی کو اس بات کا داقی احساس ہو جائے تو وہ اسی طرح  
 ہمہ تن مشغول نظر رہے گا جیسے اتحان میں بیٹھا ہوا وہ طالب علم جس کا دقت ختم ہو رہا ہو اور ابھی اسے کئی سوال کرنے  
 باقی ہوں۔ لیکن اگر آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے وقت کی اہمیت نہیں سمجھتے تو اس کے معنای یہ ہیں کہ  
 آپ کو اس نازک صورت حال کا احساس نہیں ہے جس میں آپ کی زندگی کا جہاز گھرا ہوا ہے۔ آپ موت سے نہیں ڈرتے  
 آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سوچئے کہ آپ کی زندگی آپ کے بارے میں کس چیز کا ثبوت دے رہی ہے (زندگی بیٹھا لالہ) ۱۸۸۳

## خدمتِ دین کی مشکلات

پندرہ سال پہلے کا ایک فاقہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ روان نامی بستی کے باہر ایک بارغ میں جماعتِ اسلامی کا خلی  
ماہزا جماعت ہو رہا تھا۔ ظہر کا وقت تھا۔ انہیں پڑھی تھی، ایک بڑے درخت کے نیچے فرش بچا ہوا تھا جہاں کچھ لوگ  
سن تھیں پڑھ رہے تھے اور کچھ نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک حادثہ پیش آیا۔ جماعت کے بالکل قریب  
ایک بڑا سا گڑھا تھا جس کے عین کنارے سے راستہ گزرتا تھا۔ اس راستے پر ایک بیل گاڑی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ  
گڑھ کے کنارے پہنچیں اس کا ایک طرف کا پسہ چھپل گیا اور پوری گاڑی کر دٹ ہو کر گڑھ میں اس طرح گرفتاری کا ایک  
پسہ اور کھڑا تھا اور دوسرا پیچے دبما تھا۔ جیسے ہم میں سے کچھ لوگوں کی نظر اس پر پڑی، وہ فروزان کی مدد کے  
لئے دوڑ پڑے۔ گاڑی سامان سے لدی ہوئی تھی۔ بیل ہمیں اس کے ساتھ جوئے میں پھنسے ہوئے تھے۔ بظاہر ہمیں میں نہیں آتا تھا  
کہ یہ چند لوگ کیسے اس مسئلہ کو حل کر سکیں گے۔ مگر یہ سچنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ فوراً فائدہ ادا کرنے کا وقت تھا۔ آنے  
والے فرداً اپنے کام میں لگ گئے۔ کچھ نے نیچے سے زور لگایا اور کچھ نے اور پر سے پڑھ کر گاڑی کو اٹھانا شروع کیا۔ میں ان  
خوش نصیبوں میں ٹھا جو گاڑی کو نیچے سے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔

اس کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ یک ایک ہم نے دیکھا کہ گاڑی اٹھا کر اور رکھ دی گئی ہے۔ داقتی کا ایسا ہی  
ہوا جو چند آدمی اس کام میں لگے تھے ان سب کا متفقہ احساس تھا کہ گاڑی ہم نے نہیں اٹھائی ہے، بلکہ وہ توکی اور نے  
اٹھا کر کھڑی کر دی ہے۔ نیچے ہاتھ دینے والوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اور سے کوئی اس کو ہیچھے چلا جا رہا ہے۔ اور جو  
لوگ اور تھے ان کو ایسا حسوس ہو رہا تھا کو یا گاڑی نیچے سے اٹھتی چلی آ رہی ہے۔

یہ فاقہ جو کچھ پندرہ سال سے میری یادِ داشت کا بہترین سرایہ رہا ہے اس کو میں نے قصہ خوانی کے طور پر  
آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، خدا مجھ کو اس سے بچائے کہ میں قصہ خوانی کو اپنا طریقہ بناؤں اور قصہ سانس نہیں آپ کا  
وقت ضائع کر دو۔ میں نے اس کو صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ آپ اس پر غور کریں۔ کیوں کہ اس کے اندر ہمارے لئے  
بڑی عبرت کا سامان ہے، یہ فاقہ ہمارے لئے اس بات کا پیغام ہے کہ خدا انسانوں کی مدد کرتا ہے، یہ ہمارے لئے خدا کی  
مدد کا ایک ذاتی تجربہ ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ مگر یہ ایسا داقہ ہے جو ہماری اپنی زندگی  
میں پیش آیا ہے جس کا ہم نے بہار راست تقریب کیا ہے۔ لدی ہوئی اور ہیچپنی ہوئی گاڑی کا محض چند آٹے میں کے ہاتھ نگانے  
سے دم بھریں اٹھ کر کھڑی ہو جانا، یقیناً خدا کی مدد کی وجہ سے تھا۔ اگر ہم کو دہ آنکھیں حاصل ہوتیں جن سے غیر مادی حقیقتوں  
کو دیکھا جاسکے تو ہم دیکھتے کہ عین اس وقت جب کہ چند کمزور آدمی محض خدا کے بھروسے پر بمال حسبہ اللہ ایک نیک کام کے لئے  
دوڑ پڑے تو اسی وقت آسمان سے فرشتوں کی بھی ایک فوج اتر آئی اور اس نے آن کی آٹی میں وہ کام کر دیا جو ہمارے کم زور  
ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا تھا۔

دستو! اسی طرح سے ایک اور گاڑی ہیچنی ہوئی ہے۔ یہ دین کی گاڑی ہے۔ اسلام کی گاڑی چلتے چلتے حالات

بین بچپنی گئی ہے۔ پاساں کی غفلت سے باطل اس پر حلہ اور ہو گیا ہے۔ زمین کی خرابی سے اس کے پیٹے اپنی جگہ سے بہٹ گئے ہیں۔ اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے لئے درپڑیں۔ آپ اس کو انٹھانے کے لئے اپنے وجود کو نکال دیں۔ آپ کی زندگی کا بہترین مصروف، آپ کے اوقات کا اعلیٰ ترین استعمال اس وقت انگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ خدا کے دین کی حکماڑی کو انٹھانے میں لگئے ہوئے ہوں۔ اس زمین پر انسان کے لئے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں۔ خدا کے دین کا مقولہ ہونا ہمارے لئے سعادت و کامرانی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اگرچہ دین اور اہل دین کے لئے انتہائی سخت حالت ہے، مگر اپنی سخت حالات میں ہمارے لئے اس سب سے بڑی کامیابی کاراز چھپا ہوتا ہے جس کی اس دنیا میں کوئی شخص تناؤ کر سکتا ہے۔ انسان کے لئے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں کہ وہ خدا کے کام میں لگا ہوا ہو۔ ہمارا عاجز اور گزید وجود خدا کی خدمت میں مصروف ہو۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے جس کی ہم آرزو کریں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کی مدد کے لئے انٹھا خود ہم کو خدا کی مدد کا سختی بتاتا ہے۔ جب بندہ خدا کے کام میں مصروف ہوتا ہے تو وہ تنہا چیزیں ہوتا، بلکہ خود خدا بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ خدمت دینا وہ بیترين وقت ہے جب بندے کو خدا کی محیت حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لمحات کس تدریجی پر جب بندہ خدا کے ساتھ چل رہا ہو، جب وہ خدا کے سایہ میں سفر کر رہا ہو، جب خدا کے فرشتے اس کے ہم رکاب ہوں، جب وہ براہ راست خدا کی نگرانی میں آگیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک معمولی آدمی کو اگر کسی حاکم کی محیت حاصل ہو جائے تو وہ پھولانہیں سماتا۔ پھر خدا کی محیت اور اس کی مدد کا کیا لٹھکانا۔

دین آج جسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اسے آپ ہی کو پورا کرنا ہے۔ یہ کام آپ کو انجام دینا ہے۔ خدا کی طرف سے آپ کو ایمان کی توفیق ملنا اور آخری رسول کی امت میں شال کیا جانا، گویا خدا کی طرف سے آپ کا اس کام پر مقرر کیا جانا ہے۔ آپ کاریان، اس کام پر آپ کے تقریباً کاششان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے لئے اس کی دلیل کے مطابق تمام انتظامات بھی کر دئے جاتے ہیں۔ ایک شخص کو حکومت کی طرف سے خط ملے کہ تم کو فلاں جنگی علاقے میں فارست افسر بنایا گیا ہے، تم دہاں جا کر اپنی دلیل بینھا لو۔ تو اس کے ذہن میں فوراً چند سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت وہ سرکاری ملازمتوں کے متعلق حکومت کے شائع شدہ قواعد و ضوابط سے رجوع کرے تو وہ دیکھے گا کہ دہاں اس کے سارے سوالات کا پیشگی جواب لکھ دیا گیا ہے۔ «گھر سے دلیل کے مقام تک جانے کی صورت کیا ہوگی؟» جواب یہ کہ تم کو پوری مسافت کے لئے معقول سفر خرچ دیا جاتا ہے۔ «میں دہاں جا کر کس جگہ رہوں گا؟» اس کا جواب یہ ہو گا کہ دہاں تھارے رہنے کے لئے سرکاری بھنگلہ بنایا ہو۔ «جنگل میں اپنی حفاظت کے لئے میں کیا کروں گا؟» حفاظتی دستہ تھارے ساتھ موجود ہے گا۔ «گھر کے اخراجات کے لئے کیا ہو گا؟» تم کو ماہان تجوہ کے طور پر ایک معقول رقم دی جائے گی۔ اسی طرح ملازم کے ہر سوال کا ایک اطمینان بخش جواب حکومت کے پاس موجود ہو گا۔ ہر تقریباً لازماً یہ چاہتا ہے کہ جس کو مقرر کیا جائے، اس کی مذوریات اور مشکلات کا بھی اس میں پورا الحافظ کیا گیا ہو۔

اسی طرح خدا نے جب آپ کو ایک کام پر مقرر کیا ہے تو اسی کے ساتھ اس نے یقینی طور پر آپ کی ہر ضرورت کا اتفاق مبھی کر دیا ہے۔ خدا تمام مہربانیوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہیں دآسمان کا امدادار ہے۔ ذرا سچ دوسریں کا

سارا خزانہ اس کی ممکنی میں ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ اپنے عاجز اور حیرت بند دل کو ایک کام پر مقرر کرے اور پھر ان کی ضروریات کا لحاظ نہ کرے۔ یہ اس کی صفتِ رحمیت کے خلاف ہے، یہ اس کی شان اقتدار کے منافی ہے۔ بلاشبہ اس نے خاریں دین کی تمام ضروریات کا اس دنیا میں مکمل انتظام کر دیا ہے۔ ایسا انتظام کہ آخرت میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا مگر دشواریوں اور مشکلوں کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔

یہ انتظام کیا ہے اور ہم کس طرح اسے جائیں، اس کی میں نہایت آسان صورت آپ کو بتاؤ۔ آپ خدمتِ دین کے کام کا ارادہ کیجئے اور اس کے بعد سوچئے کہ اس کام میں آپ کی کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ جتنی معمولی ضرورتیں اور فاقعی مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں، ان سب کی لیک فہرست بناؤ اسے اور اس کے بعد خدا کی کتاب کھوں کہ اس کو بتا سے پڑھت شروع کیجئے۔ باطل اسی طرح جیسے ایک ملازم سرکار اپنی ملازمت کے مسائل کے متعلق جاننے کے لئے حکومت کے قواعد و ضوابط کا مطالعہ کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کی کتاب آپ کے معمولی مطابے کا قطبی اور یقینی جواب دیتی ٹھی جا رہی ہے۔ کسی بھی ایسی حقیقی ضرورت کا آپ تصور نہیں کر سکتے جس کا خدا کی کتاب ذمہ نے رہی ہے۔ اس معاملہ میں ہرگز آپ کتاب الٰہی کو خاموش نہ پائیں گے۔ اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کی کتاب میں ہماری کسی ضرورت کے بارے میں ایک یقین دہانی کاں جانا اس بات کی کافی صفات ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ ایمان کا مطلب خدا پر فوکل ہے اور ایمان کے لفظی معنی بھروسہ اور اعتباری کے آتے ہیں (یوسف ۱۱) خدا پر اور قرآن پر ایمان لانے کا اصل مطلب یہ ہے۔ اس نئے اگر ہم خدا کی کتاب میں ایک یقین دہانی پائیں گے کہ باوجود اس پر اعتماد کریں تو یہ خود ہمارے ایمان کے خلاف ہو گا۔ ایسی صورت میں ہم کو خود اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہئے تاکہ ہم قرآن کے الفاظ پر شبہ کریں۔

۱۔ آئیے ہم اس حیثیت سے قرآن کا ایک مختصر مطالعہ کریں۔ موجودہ زمانے میں دین کی خدمت کرنے کا ارادہ ہم سے کن ضرورتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک داعی کے سامنے سب سے پہلا سوال جاؤتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ برا مشکل کام ہے اور میں نہایت گز درہوں۔ خاص طور پر اس کے لئے زبانِ دل کی زبردست طاقت درکار ہے اور مجھے اس پر قدرت نہیں۔ اس کا آغاز زبانِ دل کی سے ہوتا ہے۔ اس نئے اس اعتبار سے اپنی بے مانگی کا احساس اور حالات کی ناساختت کی وجہ سے پست ہتی۔ — یہ دو جزیں سب سے پہلے موجودہ زمانے میں دعویٰ کام کی بات سوچنے والے پر طاری ہوتی ہیں۔

یہ سلسلہ ذہن میں رکھ کر جب ہم قرآن کے صفات پر نظر ڈالتے ہیں تو بھی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مرد صاحبِ کو اللہ تعالیٰ کو ہدیہ طور پر بلا کر اس کو سیغیری عطا کرتا ہے اور اس کو یہ خدمت سنبھنا ہے کہ وہ فرعون اور مصر کی قبليٰ قوم کے پاس جا کر اس کو خدا کا پیغام پہنچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو ملک کی حکمران قوم کو خطاب کرنے کا کام سونپا جا رہا تھا۔ اس تصریح کو سن کر وہ بے اختیار کہہ اٹھئے کہ خدا یا میں اپنے اندر اس کی ہمیت نہیں پا رہوں اور میری زبان میرا ساتھ دیتی جوئی نظر نہیں آتی:

رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُنْ بُوْنَ رَيْبِنْ صَدْرِي دَلَا  
خدا یا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے میرا سینہ  
بَيْنَظِلِشْ لِسَانِي ۖ شعراء ۱۲ - ۱۳

سارا خزانہ اس کی ممکنی میں ہے کہ دہ اپنے عاجز اور حیر بندوں کو ایک کام پر مقرر کرے اور پھر ان کی ضروریات کا لحاظ نہ کرے۔ یہ اس کی صفتِ رحمیت کے خلاف ہے، یہ اس کی شانِ اقتدار کے منافی ہے۔ بلاشبہ اس نے خادمان دین کی تمام ضروریات کا اس دنیا میں مکمل انتظام کر دیا ہے۔ ایسا انتظام کا آخرت میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ دین کی خدمت کرنا پاہتا تھا مگر دشوار یوں اور شکل کوں کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔

یہ انتظام کیا ہے اور ہم کس طرح اسے جانیں، اس کی میں نہایت آسان صورت آپ کو بتاؤ۔ آپ خدمتِ دین کے کام کا ازادہ کیجئے اور اس کے بعد سوچئے کہ اس کام میں آپ کی کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ جتنی معمولی ضرورتیں اور فاقی مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں، ان سب کی ایک فہرست بناؤ لئے اور اس کے بعد خدا کی کتاب کھول کر اس کو ابتداء سے پڑھنا شروع کیجئے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک ملازم سرکار اپنی ملازمت کے مسائل کے متعلق جانتے کے لئے حکومت کے قواعد و ضوابط کا مطالعہ کرتا ہے۔ مجھے یقینا ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کی کتاب آپ کے ہر معقول مرطاب یہ کاقطی اور یقینی جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ کسی بھی ایسا حقیقی ضرورت کا آپ تصور نہیں کر سکتے جس کا اندازی کتاب ذمہ نے رہی ہو۔ اس حاملہ میں ہر گز آپ کتاب الہی کو خاموش نہ پائیں گے۔ اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کی کتاب میں بماری کسی ضرورت کے بارے میں ایک یقین دہانی کاں جانا اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ ایمان کا مطلب خدا پر توکل ہے اور ایمان کے فلسفی معنی بھروسہ اور اعتبار ہی کے آتے ہیں (یوسف ۱۱) خدا پر اور قرآن پر ایمان لانے کا اصل مطلب یہ ہے۔ اس نے اگر ہم خدا کی کتاب میں ایک یقین دہانی پالیئے کے باوجود اس پر اعتماد کریں تو یہ خود بارے ایمان کے خلاف ہو گا۔ ایسی صورت میں ہم کو خود اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہئے نہ کہ ہم قرآن کے الفاظ پر شبہ کریں۔

۱۔ آئیے ہم اس حیثیت سے قرآن کا ایک مختصر مرطاب کریں۔ موجودہ زمانے میں دین کی خدمت کرنے کا ارادہ ہم سے کن ضرورتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک راغبی کے سامنے سب سے پہلا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ باشکل کام ہے اور میں نہایت گز درہوں۔ فاص طور پر اس کے لئے زبان و قلم کی ذریعہ اور کارہے اور مجھے اس پر تقدیر نہیں۔ اس کا آغاز زبان و قلم ہی سے ہوتا ہے۔ اس نے اس اعتبار سے اپنی بے مانگی کا احساس اور حالات کی ناساعدت کی وجہ سے پست ہی۔ — یہ درجیں سب سے پہلے موجودہ زمانے میں دعویٰ کام کی بات سوچنے والے پر طاری ہوتی ہیں۔

یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کر جب ہم قرآن کے صفات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بارے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مرد صاحبِ کو اللہ تعالیٰ کو ٹوپر پلا کر اس کو سیبیہ عطا کرتا ہے اور اس کو یہ خدمت سنبھلنا ہے کہ وہ فرعون اور مصر کی قبیلی قوم کے پاس جا کر اس کو خدا کا پیغام بیخپاٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو ملک کی حکمران قوم کو خطاب کرنے کا کام سونپا جا رہا تھا۔ اس تندر کو سن کر وہ بے اختیار کہہ اٹھے کھنڈیا میں اپنے اندر اس کی ہمت نہیں پا رہا ہوں اور میری زبان میرا ساتھ دیتی جوئی نظر نہیں آتی:

رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكِلَنْ بُوْنَ رَيْضِينْ صَدْرِي دَلَا<sup>۱</sup>  
خدا یا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھنڈا دیں گے میرا سینہ  
تُنْكَ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔<sup>۲</sup>

خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تم ڈر دمٹ۔ بختاری ضرورت کی سب چیزیں تم کو ہماری طرف سے دے دی گیں۔

قد اُرْتِیٰتَ سُوْلَّاَتَ يَا مُوسَى (طہ - ۳۶)

یہ مانگنے اور دئے جانے کا داقعہ جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک واقعہ کی شکل میں ہماری اسی قسم کی مانگ کا جواب ہے۔ امت محمدیہ کے افراد جو ختم نبوت کے بعد نبوت کے کام پر مأمور کئے گئے ہیں ان کے لئے بنی اسرائیل کے ہمپیر کا یہ واقعہ ایک پیشگی بشارت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر تم ہمارے دین کی دعوت دینے کے لئے اٹھو تو ہم تم کو زبان دیں گے جس سے تم بولو گے، اور ہم بختاری ڈھارس بندھائیں گے۔ جس کے بعد تم بڑے بڑے علاقوں پر کسی بچکچا ہٹ کے بغیر ہماری آدماں پہنچا سکو گے۔ مجھے اس میں ذرا بھی شری نہیں کہ الگ آنکسی بندہ خدا کے اندر حقيقة دایی بننے کا جذبہ ابھرائے اور وہ بے تاباہ اپنے رب کو پکاراٹھے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں مگر:

اللَّهُمَّ يَسِّيْقِ صَدْرِي دَلَالِ يَظْلَمَ لِسَانِي خدا یہ راسیتہ نگہ ہو رہا ہے اور میری زبان چلی نہیں

تولیقیتاً كلام الہی اس کو دوبارہ آداز دے کر کہے گا کہ جاؤ ہم نے تم کو دہ چیز دے دی جس کی تھیں ضرورت تھی۔ وہی خدا آج بھی اس دنیا کا خدا ہے جس نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو خطاب کیا تھا۔ وہ آج بھی وہی پکھ کر سکتا ہے جو اس نے ہزار دل بر س پہنچے اپنے ایک بندے کے ساتھ کیا تھا۔ وہ چاہتے تو گونئے کو ناطق بنا دے اور بولتے ہوئے شخص کو گونٹا کر دے۔ کم زور دل کو ہمت دے دے اور ہمت والے کو پست کر کے بٹھا دے۔ وہ سب پکھ کر سکتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ اس کے

ادب بھروسہ کریں۔

۷۔ دوسری ضرورت جس کا اس سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ معاش کا مسئلہ ہے۔ آدمی جب دین کی خود را پوری کرنے کے لئے امتحان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ضروریات تو ختم نہیں ہو جاتیں۔ اس کے جسمانی تقدیض، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں۔ اگر وہ دین کے کام کی طرف جھکتے تو ذاتی کاموں میں کمی ہوتی ہے اور ذاتی ضروریات میں اپنی توجہ صرف کرے تو دین کا خانہ خالی رہ جاتا ہے۔ یہ دوسرے سوال ہے جو ہر دنی کے ساتھ لانا پیش آتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے۔

یہ سوال لے کر ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے مقامات ہم کو ملتے ہیں جہاں اس محالہ میں ہم کو خدا کی مدد کا یقین دلایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم قرآن کی ۵۰ دوسرہ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے پاتے ہیں:

وَمَنْ تَبْتَقِّي اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ حِجَّةٍ يَرْدُ رُزْقُهُ مِنْ

جَوَّالَهُ الدَّائِرَى اِفْتِيَارَكَرَبَّهُمْ تَوَالِدُهُ اَسَ كَلَّهُ لِكَشَادِيٍّ پَيْدَا

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

(طلاق ۲) اس کا مگان بھی نہیں جاسکتا۔

یہ ایک بہت بڑی یقینی دہانی ہے، یہ ایک عظیم انتہروں سے جو خدا کی طرف سے اہل ایمان کو دیا گیا ہے۔ آج کا انسان بھتھتا ہے کہ صرف اس کا کھیت، اس کی دکان اور اس کی ملازمت واحد نہیں ہیں جو کسی کو رزق دیتے ہیں۔ اس کو خدا کے عظیم سرچشمے کی مرے سے خبری نہیں۔ اس کو حلوم ہی نہیں کہ یہاں ایک اور خزانہ ہے جو تمام حلوم خزانوں سے زیادہ بھرا ہوا ہے۔ یہاں ایک

اور دینے والا ہے جو تمام دینے والوں سے زیادہ دے سکتا ہے۔ اس لئے یہ لوگ خدا کے خزانے کو پھر لے کر بس ادنیٰ خلاف کے سلسلے دامن پھیلائے کھڑے ہیں۔ وہ چھوٹے ذریعہ کا پاکر خوش ہیں۔ حالانکہ وہ اس سے بیٹا ذریعہ بھی حاصل کر سکتے تھے۔ موجودہ انسان کی مثال اس سے صبر نوجوان کی سی ہے جس کو گھر پر باپ کی وراشت میں محقق زمین ہے۔ مگر دیہات کے خشک ماحول سے گھبرا کر وہ بمبی بھاگ جائے اور دہاں داشنگ فیکٹری میں کلر کی حاصل کر کے سمجھے کریں نے اپنے رزق کا ذریعہ حاصل کر لیا۔ حالانکہ بمبی کی اس ملائکت زندگی میں وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے، اس سے بہت زیادہ خود اپنے گھر پر وہ اپنے کھیتوں اور باغوں میں کام کر کے آزاداً طور پر حاصل کر سکتا تھا۔

۳۔ اب تیسرا ضرورت کا تصور کیجئے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب داعی مشکلات میں پھنس گیا ہو۔ جب حالات سے اس کا انکار اُثر دے ہو گیا ہو، جب باطل طاقتیں اس کو کچھ کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی ہوں۔ یہ ہمارے احتیاج کا ناٹک وقت ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب داعی کے لئے زندگی اور روت کا مستند پیدا ہو جاتا ہے۔

اس صورت حال کا احساس لے کر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ناٹک اوقات میں اہل ایمان کی مدد کی ہے۔ بلکہ ایسے وقت میں مدد کے لئے سچنا، اس نے اپنے ادیباں ایمان کا خی تقرار دیا ہے۔

**كَانَ حَقَّاً عَلَيْنَا نَصْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ رُوم ۲۴** اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے اور پر اہل ایمان کا خی تھے بندے کے لئے احتیاج کا انتہائی وقت، آقا کے لئے بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کا انتہائی وقت ہوتا ہے جسی کیا ناٹک اتنا ہے میں وہ یہاں تک کرتا ہے کہ اپنی مخصوص فرع کو اہل ایمان کی لگک کے لئے روانہ کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے:

**إِذْ قَسْتَعِينَونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لِكُمْ أَنَّمِنْ كُمْ** جب تمہارے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے جواب دیا ہے  
**يَا أَنْفُتَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ** (الفال-۱۹) ہزار فرشتے ہیچ کر تھاری مدد کروں گا

یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے خادم حقیقی خادم پر خدا کے دشمن حملہ اور ہوں۔ انہوں نے اس کا نزد کریا ہے، اور خدا بس دور سے اس کا متابا شدیختا ہے، یہ بالکل ناقابل تصور ہے۔ ایسے موقع پر تو خدا کی غیرت و حیمت دوسرے موقع کے مقابلے میں اور زیادہ شدت کے ساتھ بھڑک لختی ہے۔ مگر مدد کا یہ معاملہ صرف ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو حقیقی خادم اور پچھے وفادار ہوں۔ اکتوبر ۱۹۴۲ء میں جب تیز پور میں صینی حملہ کا خطرو بہت بڑھ گیا تھا حکومت ہند کا ایک اعلیٰ افسر دہاں سے ٹوکرے قبل از وقت بھاگ گیا۔ اس کا تتجھ یہ ہوا کہ حکومت نے اس کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ اگر وہ جرأت اور وفاداری کے ساتھ اپنے مقام پر ڈھارتا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ خطرو پیش آنے کی صورت میں حکومت کا خاص ہواں جہاز بھیجا جاتا کہ دہاں جا کر افسر اور اس کے خاندان کو شہر سے نکال لائے۔

یہ چند مثالیں یہ سمجھنے کے لئے کافی ہیں کہ کس طرح خدا نے اپنے دین کے نادموں کی تمام ضروریات وسائل کا ذمہ یا ہے۔ مگر یاد رکھنے قرآن میں ہماری ضرورتوں کے بارے میں یہ جیلیں دہانیاں کی گئی ہیں اس کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ خدا کے فرشتے ہر سچ دشام آسمان سے خانے کے کر اتریں گے اور ہمارے سامنے بھاگ دیا کریں گے۔ اگرچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مگر عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے۔ ہماری احتیاجات کی تکمیل کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب

در اصل یہ ہے کہ وہ حالات کو اس طرح ہمارے مواقف بنا دے گا کہ ہم بآسانی یعنی ضروریات پوری کر سکیں۔ وہ ایسے امکانات پیدا کرے گا جن کو استعمال کر کے ہم اپنی کار بر آری کر سکتے ہوں، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے مقلعی ایسے خیالات ڈالے گا کہ وہ ہمارے کام آ سکیں، وہ ہمارے ذہن کو ایسی تدبیروں کی طرف لے جائے گا، جس کے بعد مسائل خود خود حل ہو جائیں گے۔ وہ ایمان کی برکت سے ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتوں کو ایسی جلا دے گا کہ کم صلاحیت والے ہبڑے صلاحیت والوں سے زیادہ کام کر سکیں گے، مقابلے کے وقت وہ ہمارے دل کو مشبوط کرے گا اور دشمن کو مرعوب کر کے شکست کو آسان بنادے گا۔ مختصر یہ کہ ہمارے کام بھی انھیں ظاہری حالات کے اندر ہوں گے جیسے سب کے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایمان کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی توجیہ کی بنابر حالات میں پچھا ایسا غیر معمولی پن آجائے گا کہ کتر دسائل سے ہم زیادہ کام لے سکیں گے اور معمولی ساز و سامان کے باوجود زیادہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

دستویا یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ کوئی جذباتی نظرہ نہیں ہے اور نہ شاعری ہے۔ یہ ایک سراپا حقیقت کا انہصار ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی چیز ممکن ہے تو سب سے بڑا ممکن یہ ہے کہ بندہ جب خدا کی مدد کا محتاج ہو تو خدا اس کی مدد کرے۔ اس زمین و آسمان میں ہر دوسرے امکان کے بارے میں مجھے شبیہ ہو سکتا ہے۔ مگر یہ امکان میرے لئے ہر شبیہ اور تردد سے بالاتر ہے کہ خدا اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کے لئے اٹھتے ہیں۔ اس کی دیوبھی نہیں ہے کہ بندے کے اندر کوئی ذاتی طاقت ہے۔ بعض مذاہب کی طرح میں اس نظرے پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ انسان اپنی ریاضت سے خدا کو یا افطرت کی بر طاقتوں کو مستخر کر لیتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بالکل لغبات ہے۔ خدا کی مدد کو میں سب سے زیادہ قلعی اس لئے قرار دے رہا ہوں کہ یہ خدا کی اپنی صفت ہے۔ خدا کا رحم اور قادر ہوتا، اس کا غالباً اور مالک ہوتا۔ لازمی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے عاجز اور محتاج بندوں کی مدد کرے۔ یاد رکھئے کہ یہ خدا کی شان خداوی کے بالکل خلاف ہے کہ وہ بندوں کو عاجز و مجبور کی حیثیت سے پیدا کرے۔ اور جب بندوں کا عاجز کسی ضرورت کا محتاج ہو تو وہ ان کی مدد دفرمائے۔ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ قطعاً ناممکن ہے۔

دستو! اگر آپ کے پاس سننے کے لئے کان ہوں تو خدا کی کتاب پکار رہی ہے — من انہادی إلى الله (کون ہے جو خدا کے کام میں اس کا مدد گار بنتے) اور اسی کے ساتھ اس میں یہ صفات بھی موجود ہے کہ — ان شفاعة الله (یعنی صرکم) الگ تم خدا کی مدد کے لئے انھوں گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا) خدا آپ کو ایسے کام کے لئے پکار رہا ہے جس میں وہ خود آپ کا مددگار ہے۔ دین کی خدمت خدا کی حیثیت کا راستہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم کو اپنے کام کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اگر ایک ایسے کام کے لئے بھی آپ نہیں اٹھیں گے تو اور کس کام کے لئے اٹھیں گے۔ اور اس خدمت کے بغیر مر گئے تو خدا کا سامنا کس طرح کریں گے۔

اٹھئے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اٹھئے کہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی لافرقان ریح الشانی (۵۱۲۸۳)

## ہمیں کیا کرنا ہے میں

”ہمیں کیا کرنا ہے“ — اس سوال کا جواب ایک لفظ میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اور دوسرے بندگاں خدا کو آگ کے عذاب سے بچانا ہے۔ قرآن نے زندگی کا جو تصور دیا ہے اس کے مطابق زندگی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی آخرت میں خدا کی گرفت سے پُز کے۔ اس آنے والے دن کی خیتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسرے انسانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کرنا — یہی مسلمان کا اصل کام ہے اور اس کے سارے اعمال کا مرکز و محور یہی ایک چیز ہے۔

ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا حادثہ پیش آ رہا ہے وہ یہ کہ یہاں بننے والے انسانوں میں سے ہر روز تقریباً ڈیڑھ لاکھ آدمی مر جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ موت کے فرشتے کل کے لئے جن ڈیڑھ لاکھ آدمیوں کی نیزست تیار کر رہے ہیں اس میں ہمارے ملک کے باشندوں میں سے کس کس کا نام ہو۔ ہم میں سے ہر شخص کو موت آنی ہے، مگر ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی اور جن لوگوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کے متعلق بھی کچھ نہیں معلوم کر سکتے کون کل اٹھایا جائے گا اور کون کل کے بعد ہمارا پیغام سننے کے لئے باقی رہے گا۔

ایک طرف یہ حقیقت ہے اور دوسری طرف یہ داعہ کہ موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ہماری اصل زندگی کا آغاز ہے۔ موت در اصل کسی انسان کا وہ وقت ہے جب وہ کائنات کی عدالت میں آخری فیصلے کے لئے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ ان دو فوں چیزوں کو ملا دیں، یعنی زندگی کی بے اعتباری اور یہ کہ زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے، تو فوراً آپ کی سمجھ میں آجائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ موت سے پہلے آدمی کو بہت سے کام نظر آتے ہیں۔ مگر موت کے بعد آدمی کے سامنے ایک ہی کام ہو گا۔ وہ یہ کہ خدا کے غصہ سے وہ کس طرح بچے۔ جب آدمی کے پاس بہت زیادہ وقت ہو تو وہ بہت سے کام چھیر دیتا ہے مگر جس کو وقت کے صرف چند لمحے حاصل ہوں وہ صرف وہی کام کرتا ہے جو انتہائی ضروری ہے فیصلہ کن لمحات میں کوئی شخص غیر متعلق کام میں صرودن ہونے کی حاجت نہیں کر سکتا۔

یہ آنے والا وقت ہم میں سے ہر شخص کی طرف روڑا چلا آ رہا ہے۔ ہر زندہ انسان اس خطرے میں بدلائے کہ کل اس کی موت آ جائے اور اس کے بعد نہ اس کے لئے سنبھال کا موقع باقی رہے اور نہ ہمارے لئے سنانے کا۔ یہ صورت حال خود بخاری ہے کہ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ایک ایک شخص تک پہنچیں اور اس کو زندگی کے حقیقی مسئلے سے آکاہ کرئیں۔ اس ملک کی آبادی اگر ساٹھ گر در ہے تو اس کے سعی یہ ہیں کہ آپ کو ساٹھ گرد کام کرنے ہیں۔ کیوں کہ آج کا ہر انسان حقیقت سے فاصل ہے۔ ہر آدمی اس بات کا حاجت مند ہے کہ اس کو حقیقت کا علم پہنچایا جائے۔

ہمارے رہنماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت حق کے کام پر مأمور کیا گیا تو آپ نے مکہ میں ایک تقریر کی۔ بنی ہُبَّی کی

جیشت سے یا آپ کی پہلی تقریر تھی۔ حمد و شکر کے بعد آپ نے فرمایا نہہ  
 إِنَّ اللَّهَ أَئِنَّ لَا يَكُنْ بُّ أَهْلَهُ، دَالِّهُ لَوْلَذَّ بُّ النَّاسَ رَأَيْدَ اپنے آدمیوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا خدا کی قسم اگر میں  
 بِجَمِيعِ الْمَالِ لَذَّ بَتَّهُمْ وَلَوْلَذَّ بُّ النَّاسَ جَمِيعًا ما تمام لوگوں سے جھوٹ کر سکتا جب بھی تم سے جھوٹ نہ کہتا۔ اور

غَدَرْشَكُمْ كَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 إِلَيْكُمْ خَاصَّةٌ وَإِنَّ النَّاسَ كَافَّةٌ ذَلِكُمْ شَيْءٌ مَا  
 تَنَامُونَ وَلَتَبْعَثُنَا مَا تَسْتَقْبِلُونَ فَلَنْ تَحْسَبُنَا بِمَا  
 تَعْمَلُونَ وَلَتُجْزِئُنَا بِمَا لِأَحْسَانَاهُ بِالسُّوءِ  
 مِنْهُ أَدْبَانَهَا جَنَّاتٌ أَبْدَأْنَا أَدْبَادَ أَبْدَأْ  
 (رجہہ خطب العرب، حصہ اول، صفحہ ۵۱)

اگر میں تمام لوگوں کو دھوکا دے سکتا جب بھی تھیں دھوکا نہ  
 دیتا۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خلا نہیں، میں خدا کا طرت  
 سے بھیجا ہوا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور دوسرے  
 انسانوں کی طرف عام طور پر۔ خدا کی قسم تمہیں مرنے ہے جس طرح  
 تم سوتے ہو اور پھر تمہیں اٹھنا ہے جس طرح تم جائے ہو۔ اور  
 یقیناً تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ پھر اچھے عمل  
 کا اچھا بدلہ ملے گا اور برسے عمل کا برا بدلہ۔ اس کے بعد یا تو  
 ہمیشہ کے لئے جنت ہے، یا ہمیشہ کے لئے آگ۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: آنَا أَلَّا تَذَنِّي مِنْ الْعُنْيَ يَانُ (متفق علیہ) یعنی میرا کام تم کو آخرت کے عناب  
 سے ڈرانا ہے جس طرح "نذر عربان" اپنے قبیلے کو آنے والے خطرے سے ہوشیار کرتا ہے۔ اسی لئے نبی کو قرآن میں "نذر در  
 بشیر" کہا گیا ہے۔ یعنی وہ مستقبل کے خطرے سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اور جو لوگ اس کے مطابق اپنے کو بنالیں ان کو  
 اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی لئے امت مسلمہ کا مقصد "شہادت حق" بتایا گیا ہے۔  
 یعنی لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کرنا کہ حق کیا ہے اور خدا کے یہاں ان کی بخات کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔  
 یہ خدا کی طرف بلانا اور آنے والے دن سے ہوشیار کرنے کے لئے نذر عربان بن جانا وہ سب سے بڑا انتسابی  
 پروگرام ہے جس سے اب تک انسان واقعہ ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑے کسی عملی پروگرام کا تصور نہیں کیا  
 جاسکتا۔ دوسرے پروگرام جو دنیا میں اختیار کئے جاتے ہیں وہ اپنے الفاظ اور مفروض کے لحاظ سے بہت بڑے  
 معلوم ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کے سب نہایت حیرا درجیدہ ہیں۔ ان کا دائرہ انسانی زندگی میں تھوڑی  
 تھوڑی دور جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ نظریہ انسان کے اندر آخری حد تک سرایت کرتا ہے، یہ فساد کیر کے  
 خلاف جہاد عظیم ہے جو داعی کو سرتاپ امکونت بتا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ اس کے تمام ظاہری دباٹی معاملات میں انقلاب  
 برپا کرنے والا ہے۔ یہ کام اپنی ابتداء میں ایک کام ہے مگر جب وہ عمل میں آتا ہے تو شاخ در شاخ پھیلتا ہو اہم اکام  
 بن جاتا ہے۔

جو لوگ صرف اقتدار کے لئے اٹھتے ہیں ان کا کام اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ ایک حکمران خاندان کو قتل  
 کر دیں یا چند سیاسی لیڈروں کو زیر کر کے ان سے حکومت کی کرسی چھین لیں۔ جب کہ یہ نظریہ ان تمام انسانوں کو فتح  
 کرنا چاہتا ہے جو زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ سماجی اصلاح کا پروگرام چند اسکول اور چند ہسپتال بنوانے کے  
 بعد مطمئن ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا کام ہو گیا، جب کہ یہ نظریہ دلوں اور دماغوں کو بدل کرنے کے قسم کے انسان دبجو  
 میں لانا چاہتا ہے جس سے زیادہ مشکل کوئی کام اس سرزمیں کے اور پر نہیں ہے۔ معاشر ایکیمیں چند سال کی دنیوی زندگی  
 کے لئے کچھ نشانے ادمی کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ جب کہ یہ نظریہ لامتناہی زندگی کی بے حساب کامرانیاں حاصل کرنے

کے لئے آدمی کو تحریک کرتا ہے۔ ہر دوسرے کام کا ایک خاص میدان ہے۔ یہ میدان جہاں موجود نہ ہو دہاں اس کے کارکن بے دست دیا نظر آتے لگتے ہیں۔ مثلاً اشتراکیت ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بے بس پاتی ہے جہاں مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان جھگٹکے نہ ہوں۔ آزادی کی تحریک کے لئے اس وقت کرنے کا کام کچھ نہیں رہتا جب بیردی آتا ہے۔ گئے ہوں اور ان کی جگہ ملکی آقاوں نے لے لی ہو۔ مگر یہ نظریہ ایک ایسا دستے اور ہمہ گیر نظریہ ہے جس کے لئے وقت کرنے کا کام ہے اور ہر جگہ اس کے لئے کام کا میدان موجود ہے۔

پھر اس نظریے کی خصوصیت ہی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود داعی کو بدل دیتا ہے، جب کہ دوسرے نظریات کا حال یہ ہے کہ وہ صرف دوسروں سے تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، خود اپنے پیروؤں کے اندر تبدیلی لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تحریک کچھ انسانوں کو جمع کرتی ہے تاکہ وہ غذائی قلت کے خلاف حکومت سے احتجاج کریں۔ مگر یہ افراد بھلی کے کھبے توڑنا شروع کر دیتے ہیں، دکانوں کو لوٹتے ہیں، فلے کے گوداموں میں آگ لگادیتے ہیں، ریلوو اور سبوں کو چلنے سے روک دیتے ہیں۔ اس طرح ایک چیزی قلت دور کرنے کے لئے وہ بے شمار قلتیں ملک میں پیدا کر دیتے ہیں اور ساری زندگی کو تہس نہیں کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کی جس براї کے خلاف احتجاج کرتے ہیں خود اسی میں لٹ پت ہوئے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس "آئے والے دن" کی گواہی دینے کے لئے جو لوگ اٹھتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کا آغاز خود اپنی ذات سے کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ تمام اصلاحی ایسکیمیں یہاں پیغام کرنا کام ہو جاتی ہیں کہ اپنے پر دگرام کے نفاذ کے لئے جن انسانوں سے اسکیں کام لینا ہے وہ خلوص اور بے غرضی کے ساتھ ان کو تاذکرے پر تیار نہیں ہوتے۔ یہاں وجہ ہے کہ تمام انقلابی ایسکیمیں کسی مقام پر پیغام کرانے خلاف سے سمجھوتہ کریتی ہیں۔ بادشاہوں کے اقتدار کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں یہاں کی لیدر دہ کے اقتدار پر آگزٹھر جاتی ہیں۔ بغایہ الگوں کی سرمایہ داری سے بغاوت کرنے والے دولت اور زمین کو اشتراکی متولیوں کے والے گر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ نظریہ وہ واحد نظریہ ہے جو انسان کے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے عقیدہ کو مل بنائے اور ساری زندگی اس پر عمل کرتا رہے۔

دوسرے نظریات عام طور پر صرف تقید کا جذبہ ابھارتے ہیں، جب کہ آئے والے دن "کا تصور عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دوسرے نظفوں میں، اس نظریہ پر ایمان لانے کے بعد آدمی مجبور ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود عمل کرے جب کہ دوسرے نظریات صرف دوسروں سے عمل کا تقاضا کرتے ہیں، ان کے اندر ایسا کوئی محکم نہیں ہوتا جو داعی کو خود عمل کرنے پر ابھارتا ہو۔ مگر جس شخص کو اس حقیقت نے متھک کیا ہو کہ موجودہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں کہ جوچاہیں کرتے رہیں۔ بلکہ ہمارے تمام کھلے اور چھپے اعمال کا ایک روز حساب یا جانے والا ہے۔ ایسا شخص ہیں اپنے ایمان کے تقاضے سے مجبور ہوتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو درست کرے۔ اپنے آپ کو آخری حد تک مقصود کی خدمت میں لگادے۔ دوسروں کو بدلتے کی دعوت دینے کے ساتھ خود بھی اپنے آپ کو بدل ڈالے کیوں کہ اس کے بغیر وہ اپنی کامیابی کا تصور نہیں کر سکتا۔ صرف دوسروں کی تبدیلی اس کی بحاجت کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس کی بحاجت تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ

وہ خود بھی اپنے آپ کو بدل چکا ہو۔ دوسرے نقطوں میں یہ نظریہ — دعوت اور تربیت — دوسروں کو ایک کر دیتا ہے۔ اس نظریہ کا ادمی جب دوسروں کو پھرata ہے تو وہ خود اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے اور جب، وہ اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہے تو اسی وقت اس کا تلقن دوسروں سے ہو جاتا ہے۔

اس نظریہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کارکن کو بھی جو دمیں مبتلا نہیں کرتا اور نہ اسے مالوں چونے دیتا۔ جو شخص اس مقصد کے لئے اختبا ہے اس کے سامنے بنیادی طور پر جو چیز ہوتی ہے وہ آخرت ہے۔ اس نے عل کرتا ہے تاکہ اپنی بعد کی زندگی کو بہتر بنائے، تاکہ آخرت میں خدا کی گرفت سے بچ سکے۔ یہ چیز اس کو نفع نقصان اور کامیابی نام کامی کے دینیوی تصور سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ وہ نیجے کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام صرف یہ سمجھتا ہے کہ کوشش کرتا رہے اور اسی کوشش میں اپنی جان دے دے۔ اس کی انتہائی تناصرف یہ ہوتی ہے کہ فرشتے جب اس کی روپرٹ لے کر خدا کے پاس جائیں تو اس سے عرض کریں کہ خدا یا تیرا بینہ تیرے حکم کی تعمیل میں سرگرم ہے۔ ایک شخص کو بُنی۔ اسے کرنے کے بعد روزگار نہ لے تو وہ خود بھی کر لیتا ہے کیونکہ اس کے زدیک صرف تعلیم حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے بلکہ تعلیم کے دینیوی خواہ کو حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے۔ ایک سیاسی لینڈر کو اپنے مشن میں کامیابی نہ ہو تو وہ سیاست کا کام چھوڑ کر گوشنہ نشین ہو جاتا ہے اور اپنی نام کامی کے احساس کو مختلف قسم کے مشغلوں میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ذہن ان دنیا کے مسائل کو دیکھتا ہے، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان کو حل کرے، اس جذبے کے تحت وہ تر دنیا کی تحریر کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ مگر چند سال بعد جب خود اپنی زندگی کے مسائل اسے چھرتے ہیں اور اس سے اپنی بیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو مسائل عالم کی اصلاح کا پروگرام اسے بھول جاتا ہے اور وہ اپنا مگر بنانے اور اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ مگر جو شخص اللہ کے بندوں کو خدا کی طرف بلانے کے لئے اختبا ہو اس کے لئے ٹھہر نے اور یا اس پر نہ کوئی سوال نہیں۔ کیوں کہ اس کا راستہ دنیا میں کہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ سیدھا آخرت تک جاتا ہے وہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ اس نے جس منزل کی طرف اپنا سفر شروع کیا ہے وہ اس وقت آتی ہے جب زندگی کی گاڑی اپنے آخری اشیاں پر پہنچ جائے۔ وہ آخر وقت تک لوگوں کو صراط استقیم کی طرف پکارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسی حال میں اپنے رب سے جانتا ہے۔ یومن کے زدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لئے کام کرتا رہے، جب کہ دوسروں کے زدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش کے نتیجے کو پالیں۔

حاشیہ: محرانی سفر میں تافلے بار بار نزل کرتے ہوئے چلتے ہیں چنانچہ دو ایہ سفریں کسی جو شیار اور خابل اتحاد آدمی کو تیر قمار سواری کے ذریعہ اسکے بھیجا جائیں۔ جاتا ہے تاکہ وہ مظلوم کر کے آئے کہ اگلی منزلوں میں تافلے کو تیر بارے کی مزدوں جگہ کرنے کی ممکنیتی ہے جو شخص اس کام کے لئے بھجا جاتا ہے اسکو "رائے" کہتے ہیں۔ تھے عرب کی قیاگی زندگی میں جب کوئی شخص دیکھتا کہ دشمن اس کی قوم کے سر پر آیا ہے اور اس نوور ہوتا کہ اب وہ جملہ کردے گا اور وہ پہنچ کر پڑے چاہدیا اور نگاہ ہو کر چلانا شروع کرتا کہ "دشمن آگیا اور دشمن آگیا" ایسے شخص کو "زدیر عرب ہاں" کہا جاتا تھا۔ بھی نگاہ ہونکر ہو شیار کرنے والا۔

نوٹ: یہ تحریر ماہنامہ زندگی رام پور (شووال، ذی قعده ۱۳۴۹) میں اداریہ کے طور پر شائع ہوئی۔

مصنف کی تحریریں مسلسل پڑھنے کے لئے

ماہنامہ الرسالہ کا مطالعہ کیجئے

اسلام کی فطری دعوت اور اس کے ابدی  
پیغام کو جدید اسلوب میں سمجھنے کے لئے  
الرسالہ اپنی نوعیت کا واحد جریدہ ہے

سالانہ زرقاءون ۳۸ روپے

**الرسالہ**

سی - ۲۹ ، نظام الدین ولیٹ ، نئی دہلی ۱۲

## مصنف کی دوسری تصنیفات

امکانات جدیدہ للدعوه  
الشريعة الإسلامية وتحديات العصر  
الملعون بين الماضي والغالب والمستقبل  
نحو بحث اسلامی  
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية  
العلم على خطى الدين  
لابد من الثورة الفكريه  
قبل الثورة التشريعية  
القرآن في مواجهة التحدیات العصرية

ہندی مطبوعات  
انسان اپنے آپ کو پہچان  
منزل کی اور  
نوگ کے پرویش دوار پر  
سپاں کی کجوج

## انگریزی مطبوعات

Muhammad:  
The Prophet of Revolution  
God Arises  
Man! Know Thyself  
Muhammad:  
The Ideal Character  
The Way to Find God  
The Teachings of Islam  
The Good Life  
The Garden of Paradise  
The Fire of Hell  
Tabligh Movement  
Islam in Harmony with  
Human Nature  
The Final Destination  
No End to Possibilities  
The Achievement of  
Islamic Revolution  
Religion and Science  
The Prophet and his  
Companions

اسلام پدر رحیم سدی میں  
راہیں بن دہنیں  
ایمان طاقت  
اخواۃت  
باقی آموز و اتعات  
زلزال قیامت  
حقیقت کی تلاش  
یقین بر اسلام  
آخری سفر  
تعارف اسلام  
تعلیمات اسلام  
اسلامی دعوت  
خدا اور انسان  
حل بہاں ہے  
سچاراستہ  
دینی تعلیم  
حیات طبیبہ  
بانجھت  
ناجسم  
دین کی سیاسی تحریر

عربی مطبوعات  
الاسلام يتحدى  
الدين في مواجهة العلم  
حكمة الدين  
الاسلام والعصر الحديث  
مسئوليات الدعوة  
نحو تدوین جدید للعلوم الاسلامية

اردو مطبوعات  
الله أكبر  
تذکیر القرآن  
الاسلام  
عظیمت قرآن  
ذہب اور جدید حضیان  
ظهور اسلام  
ایمان اسلام  
یقین بر القلب  
سوشزم اور اسلام  
صراط مستقیم  
اسلامی زندگی  
اسلام اور عصر حاضر  
راہیات  
حقیقت حج  
خاتون اسلام  
تبیر کی غلطی  
تبیعی تحریک  
دین کیا ہے  
قرآن کا عطاوب انسان  
تجدید دین  
اسلام دین نظرت  
تبیرت  
تاریخ کامین  
ذہب اور سامن  
عقلیات اسلام  
فدادات کامن  
انسان اپنے آپ کو پہچان